



# قرآنی ضرب الامثال

حکیم انیس احمد خیر آبادی



# قرآنی ضرب الامثال

حکیم ایس احمد خیر آبادی

ناشران و تاجران کتب  
فیصل  
مفتی سید ابوالکلام

✓  
۲۹۷۶۱۴

نہ ۵۰

۹۶۷۲۶

## AI-FAISAL NASHRAN

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore, Pakistan

Phone : 7230777 Fax : 09242-7231387

<http://www.alfaisalpublishers.com>

[e.mail:alfaisal\\_pk@hotmail.com](mailto:alfaisal_pk@hotmail.com)

جولائی 2004ء

محمد فیصل نے

تعریف پرنٹرز سے چھپوا کر شائع کی۔

قیمت -/150 روپے

۱۸-۰۲-۲۰۱۲

## فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۱۲۳	بنی اسرائیل	-۱۷	۱	الفاتحہ	-۱
۱۳۰	الکہف	-۱۸	۲	البقرہ	-۲
۱۳۶	مریم	-۱۹	۱۹	ال عمران	-۳
۱۳۹	طہ	-۲۰	۲۴	النساء	-۴
۱۴۲	الانبیاء	-۲۱	۴۷	المائدہ	-۵
۱۴۸	الحج	-۲۲	۵۵	الانعام	-۶
۱۵۱	المؤمنون	-۲۳	۶۵	الاعراف	-۷
۱۵۲	النور	-۲۴	۷۴	الانفال	-۸
۱۵۹	الفرقان	-۲۵	۷۹	التوبہ	-۹
۱۶۵	الشعراء	-۲۶	۸۹	یونس	-۱۰
۱۶۹	النمل	-۲۷	۹۵	ہود	-۱۱
۱۷۳	انقص	-۲۸	۱۰۱	یوسف	-۱۲
۱۷۷	العنکبوت	-۲۹	۱۰۶	الرعد	-۱۳
۱۸۱	الروم	-۳۰	۱۱۰	ابراہیم	-۱۴
۱۸۵	لقمن	-۳۱	۱۱۴	الحجر	-۱۵
۱۸۹	الضحہ	-۳۲	۱۱۶	المحل	-۱۶

۱۵۰/۱

۱۵۰/۱

صفحة	مضمون	صفحة	مضمون	نمبر شمار
۲۶۰	الرحمن - ۵۵	۱۹۱	الاحزاب	۳۳
۲۶۳	الواقعه - ۵۶	۱۹۶	سبا	۳۴
۲۶۶	الحديد - ۵۷	۱۹۸	فاطر	۳۵
۲۶۹	المجادله - ۵۸	۲۰۱	يس	۳۶
۲۷۶	المتنحه - ۶۰	۲۰۳	الصفت	۳۷
۲۷۸	الصفت - ۶۱	۲۰۷	ص	۳۸
۲۷۹	الجمعه - ۶۲	۲۰۸	الزمر	۳۹
۲۸۱	المنفقون - ۶۳	۲۱۳	المؤمن	۴۰
۲۸۳	التغابن - ۶۴	۲۱۶	خم السجده	۴۱
۲۸۵	الطلاق - ۶۵	۲۲۰	الشورى	۴۲
۲۸۷	التحریم - ۶۶	۲۲۶	الزخرف	۴۳
۲۸۸	الملك - ۶۷	۲۳۰	الدفان	۴۴
۲۸۹	القلم - ۶۸	۲۳۲	البجاثيه	۴۵
۲۹۱	الحاقة - ۶۹	۲۳۶	الاحقاف	۴۶
۲۹۲	المعارج - ۷۰	۲۳۹	محمد	۴۷
۲۹۳	نوح - ۷۱	۲۴۳	الفتح	۴۸
۲۹۵	الجن - ۷۲	۲۴۷	البحر	۴۹
۲۹۷	المنزل - ۷۳	۲۵۰	ق	۵۰
۲۹۸	المدثر - ۷۴	۲۵۲	الذريت	۵۱
۳۰۰	القيامه - ۷۵	۲۵۵	الطور	۵۲
۳۰۱	الدهر - ۷۶	۲۵۶	النجم	۵۳
۳۰۲	المرسلات - ۷۷	۲۵۸	القمر	۵۴

صفحة	مضمون	مضمون	صفحة	مضمون	مضمون
٣١٦	القدر - ٩٤	٣٠٣	٤٨	النبا	
٣١٦	البيته - ٩٨	٣٠٥	٤٩	الترغبت	
٣١٤	الززال - ٩٩	٣٠٥	٨٠	عبس	
٣١٤	الغديت - ١٠٠	٣٠٦	٨١	التكوير	
٣١٨	القارعه - ١٠١	٣٠٤	٨٢	الانفطار	
٣١٨	التكاثر - ١٠٢	٣٠٨	٨٣	المطففين	
٣١٨	العصر - ١٠٣	٣٠٩	٨٤	الانشقاق	
٣١٩	الهمزه - ١٠٤	٣١٠	٨٥	البروج	
٣١٩	الفضل - ١٠٥	٣١٠	٨٦	الطارق	
٣١٩	قريش - ١٠٦	٣١١	٨٦	الاعلى	
٣٢٠	الماعون - ١٠٧	٣١١	٨٨	الفاشيه	
٣٢٠	الكوثر - ١٠٨	٣١٢	٨٩	الفجر	
٣٢٠	الكافرون - ١٠٩	٣١٣	٩٠	البدد	
٣٢١	النصر - ١١٠	٣١٣	٩١	الشمس	
٣٢١	اللبيب - ١١١	٣١٤	٩٢	الليل	
٣٢١	الانصاف - ١١٢	٣١٤	٩٣	الضحى	
٣٢١	العلق - ١١٣	٣١٥	٩٤	الم نشرح	
٣٢٢	الناس - ١١٤	٣١٥	٩٥	التين	
		٣١٦	٩٦	العلق	





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

## قرآنی ضرب الامثال

سلسلہ (شمارہ) / ذیلی عنوان / صدر عنوان  
پارہ، آیت، رکوع

### فاتحہ

(ساری) تعریف اللہ کے لیے ہے (۱۵)	۱/۵
سازے جہاں کامرئی ہے۔	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(۱۵) مالک روز جزا کا ہے۔	۲/۹ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
پس لاہم کو سیدھا راستہ۔	۳/۲۱ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

### بقرة

مہر لگادی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر	۱/۵۶
اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر	خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى

سَمِعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ  
غَشَاوَةٌ ۗ

پر وہ ہے۔

۲-۹-۱- ۱/۹

ذھوکھو لینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان  
والوں کو۔

يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ

۲-۱۰-۱- ۳/۲۲

ان کے دلوں میں بیماری ہے۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۗ

۲-۱۱-۱- ۴/۲۲

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر  
فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں اسے بہم تو  
اصلاح کر رہے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي  
الْأَرْضِ ۗ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ  
مُصْلِحُونَ ۗ

۲-۱۲-۱- ۵/۳۳

ہم تو محض بہ مذاق بنا رہے تھے

إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۗ

۲-۱۶-۱- ۶/۴

سو نہ ان کی تجارت ہی سود مند ہوئی اور نہ  
وہ راہ یاب ہوئے۔

فَمَا رِبْحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا  
كَانُوا مُهْتَدِينَ ۗ

۲-۱۷-۱- ۷/۵۴

(وہ) بہرے میں، گونگے ہیں، اندھے ہیں  
تو اب وہ واپس نہ ہوں گے۔

صَمٌّ بَكْمٌ عَلَىٰ فَنَّهُمْ لَا  
يَرْجِعُونَ ۗ

۲-۱۹-۱- ۸/۱۱۴

اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔

وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۗ

۲-۲۰-۱- ۹/۱۱۹

بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ۱۱۱/۱ - ۲۲-۲
سو تم اللہ کے مہسزہ ٹہراؤ اور تم جانتے (بوجھتے) ہو۔	فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَاؤَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ۱۱/۲ - ۲۴-۳
یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔	أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ ۱۲/۲۲ - ۳۱-۳
اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیئے۔	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ۱۳/۲۶ - ۲۴-۳
وہ تو ہے ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔	إِنَّهُ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ ۱۴/۹۹ - ۳-۸
اور مجھ سے وعدہ پورا کرو تو میں تم سے وعدہ پورا کروں۔	أَوْصُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ۱۵/۲۴ - ۳-۸
اور میری آیتوں کو فروخت مت کر ڈالو تنہوڑ کی قیمت پر یعنی آیات کا غلط مفہوم مسائل کے منشا کے موافق نہ بناؤ۔	وَلَا تَشْتَرُوا بِحَبْلِ آيَاتِيْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ ۱۶/۱۸ - ۲۴-۵
کیا تم دوسرے لوگوں کو تونگی کا حکم دیتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو۔	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ۝ ۱۷/۱۵ - ۲۵-۵

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط

۱۸/۲۴ - ۱ - ۵۷ - ۶

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ط

۱۹/۲۱ - ۱ - ۹۰ - ۷

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَمْرِ مَفْسِدِينَ ط

۲۱/۱۷ - ۱ - ۶۲ - ۸

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ط

۲۱/۸ - ۱ - ۶۹ - ۸

فَاقِعٌ لَّوْنَهَا سُرَّتْ النَّظِيرِينَ ط

۲۲/۲۴ - ۱ - ۸۳ - ۹

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ط

۲۳/۱۲ - ۱ - ۹۴ - ۱۱

لَتَجِدَنَّاهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ

عَلَى حَيَاتِهِ ط

۲۴/۱۷ - ۱ - ۱۰۵ - ۱۳

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ

يَشَاءُ ط

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط

۲۵/۲۰ - ۱ - ۱۱۱ - ۱۳

وَمَا لَكُمْ مَوْلًا إِلَّا أَنْفُسُكُمْ ط

اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔

کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے

دے رکھی ہے۔

زمین پر فراری بن کر مت پھرو فنا و پھیلانے

کی کوشش مت کرو۔

اور نہ کوئی اندیشہ ان (خدا کے فرماں برداروں)

کیلئے اور نہ وہ کوئی غم کریں گے۔

نہایت زبردنگ۔ دیکھنے والوں کو اچھی

معلوم ہوتی ہے۔

اور لوگوں سے (بالعموم) بھلی بات کہنا۔

اور آپ انہیں زندگی پر حریص سب لوگوں سے

بڑھ کر پائیں گے۔

اور اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے

مخصوص کرے۔

اور وہ (اللہ) بڑے ہی فضل والا ہے۔

اور جو کچھ بھلائی تم اپنے واسطے آگے بھیج

دو گے۔

مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ط

۲۶  
۱/۳۳ - ۱۳۰۱۱۱

اسے اللہ کے پاس پا لو گے۔

يُنَلِّكَ أَمْثِلُهُمْ ط

۲۷  
۲۶/۱۳ - ۱۴ - ۱۱۴

یہ انکی (ذری) آرزوئیں ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَتَّعَ

مَسْجِدًا لِلَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا

اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ط

اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روک دے کہ ان میں اس کا نام یا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔

۲۸  
۱/۲۰ - ۱۴ - ۱۱۵

فَأَيُّ مَمَاتٍ لَّوْا فَنَشَمَّ وَجْهُهُ

اللَّهُ ط

۲۹  
۱/۱۱۰ - ۱۴ - ۱۱۶

سو تم جدھر کو بھی منہ پھیرو اللہ ہی کی ذات ہے۔

بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

كُلُّ لَّهُ قٰنِیْنُوْنَ ۝

۳۰  
۲۳/۲ - ۱۴ - ۱۱۸

تَنَسَّاهَتْ قُلُوْبُهُمْ

اصلی یہی ہے کہ اسی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے حکم بردار ہیں۔

۳۱  
۲۹/۳ - ۲۹/۴ - ۱۴ - ۱۲۰

قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهٖ هُوَ الرُّهْدٰى ط

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی (بتلائی ہوئی) توراہ بس وہی ہے۔

۳۲  
۶/۲۹ - ۱۵ - ۱۲۵

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً

اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے زمانہ کعبہ

لِّلنَّاسِ قَآمِنًا ط

کو لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع اور مقام  
امن مقرر کیا۔

۳۳  
۲۶-۲۷ - ۱ - ۱۲۵ - ۱۵

اور مقام ابراہیم کو ناز کی جگہ بنا  
لو۔

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِيمَ  
مُصَلًّیً ط

یقیناً تو ہی (سب کچھ) سننے والا (سب  
کچھ) جاننے والا ہے۔

۳۴  
۱/۹۷ - ۱ - ۱۲۰ - ۱۵

اور ہم نے تو اسکو دنیا میں بھی برگزیدہ کر لیا تھا۔

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

۳۵  
۱/۴ - ۱ - ۱۳۰ - ۱۴

اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحین میں ہوں  
گے۔

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا۔

۳۶  
۱/۴ - ۱ - ۱۳۰ - ۱۴

سوا ایاہرگز نہ ہونے پائے کہ تم مرتے وقت  
بجز مسلم کے کچھ اور ہو۔

وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّٰلِحِينَ

۳۷  
۱/۴ - ۱ - ۱۳۲ - ۱۴

اور ہم تو اس کے حکم بردار ہیں۔

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ  
مُسْلِمُونَ ؕ

۳۸  
۱/۴ - ۱ - ۱۳۳ - ۱۴

آپ کہہ دیجئے کہ نہیں بلکہ (ہم نے تو)  
ابراہیم سعیدھی راہ والے کا مذہب پا  
لیا۔

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ؕ

۳۹  
۲۶/۲۷ - ۱ - ۱۳۵ - ۱۴

قُلْ بَلِّ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ  
حَنِيفًا ط

۱۶-۱۳۷-۱  $\frac{۳۰}{۱/۲۹}$ 

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۝

سوا اب اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلہ میں ہے یعنی آپ کو ان کے مقابل میں آنے کی ضرورت نہیں۔

۱۶-۱۳۸-۱  $\frac{۳۱}{۱۵/۴}$ 

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ

(ہمارے اوپر اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے بہتر کون رنگ دینے والا ہے۔)

۱۶-۱۴۰-۱  $\frac{۳۲}{۱/۸۱}$ 

قُلْ أَعْلَمُ بِمَا اللَّهُ ۝

آپ کہیے تم واقف تر ہو یا اللہ۔

۱۶-۱۴۰-۱  $\frac{۳۳}{۱/۱۱۱}$ 

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔

۱۸-۱۴۸-۲  $\frac{۳۴}{۱/۳۲}$ 

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۝

سو تم نیکیوں کی طرف بڑھو۔

۱۸-۱۵۲-۲  $\frac{۳۵}{۱/۸۳}$ 

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرَكُم ۝

مجھے یاد کرتے رہو (عمل سے) میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا (ہزار سے)۔

۱۹-۱۵۳-۲  $\frac{۳۶}{۱/۳۱}$ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا

اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد پاؤ۔

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۝

۱۹-۱۵۳-۲  $\frac{۳۷}{۱۵/۶}$ 

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

۱۹-۱۵۶-۲  $\frac{۳۸}{۱۳/۶}$ 

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

بیشک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور

بیشک ہم اسی کی طرف واپس ہونے  
والے ہیں۔

۱۹-۱۵۴-۲  $\frac{۲۹}{۱۱۳۱}$

اور یہی لوگ راہ یاب ہیں۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

۲۰-۱۶۵-۲  $\frac{۵۰}{۱۲۸}$

اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت قوی  
رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا  
لِّلَّهِ ط

۲۰-۱۶۵-۲  $\frac{۵۱}{۱۱۱۰}$

کہ قوت اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری۔

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝

۲۱-۱۶۸-۲  $\frac{۵۲}{۴۲/۱۶}$

اے انسانوں! زمین پر جو کچھ حلال اور پاکیزہ  
موجود ہو، اس میں سے کھاؤ پیو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي  
الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۝

۲۱-۱۶۸-۲  $\frac{۵۳}{۱۳/۱۹}$

اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط

۲۱-۱۶۸-۲  $\frac{۵۴}{۱۳/۱۹}$

وہ تہہ دار کھلا ہوا دشمن ہے۔

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

۲۱-۱۷۱-۲  $\frac{۵۵}{۱/۵۶}$

دیر، لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اندھے ہیں،  
سو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔

صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا  
يَعْقِلُونَ ۝

۲۱-۱۷۲-۲  $\frac{۵۶}{۱۳/۱}$

اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم خاص، اسی کی

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ



إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

۵۷  
۲۱-۱۷۳-۲  
۱/۸۶

بندگی کرنے والے ہو۔

بیشک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحمت

والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۵۸  
۲۲-۱۷۷-۲  
۱/۹۹

اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب

کو وعدہ کر چکے ہوں۔

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا

عَاهَدُوا ۝

۵۹  
۲۲-۱۷۷-۲  
۱۵/۶

اور تنگی میں، اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت

صبر کرنے والے۔

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ

الضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۝

۶۰  
۲۲-۱۸۱-۲  
۱/۹۳

بیشک اللہ بڑا سنسنے والا ہے، بڑا جانتے

والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

۶۱  
۲۳-۱۸۳-۲  
۱۵/۱۴

اے ایمان والو تم پر روزے فرض

کیے گئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ

عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

۶۲  
۲۳-۱۸۳-۲  
۶۶/۹

عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

۶۳  
۲۳-۱۸۴-۲  
۶۴/۱۶

اور جو کوئی خوشی خوشی نیکی کرے اس کے حق

میں بہتر ہے۔

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ

لَكَ ۝

۶۴  
۲۳-۱۸۵-۲  
۱۵/۱۴

سو تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پانے لازم ہے

فَمَنْ شَرِهَدَا مِنْكُمْ الشَّهْرَ

فَلْيَصُومُوا

کہ وہ (مہینہ بھر) روزہ رکھے۔

۲۳-۱۸۸-۲ ۶۵/۸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ اور۔

بِالْبَاطِلِ

۳۷-۱۸۹-۲ ۶۶/۸

وَأَنْتَقُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

اور اللہ سے تقویٰ اختیار کیے رہو تا آنکہ فلاح پا جاؤ۔

۲۴-۱۹۰-۲ ۶۷/۱۴

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

کہ اللہ حد سے باہر نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

الْمُعْتَدِينَ

۲۴-۱۹۱-۲ ۶۸/۳

وَالْفِتْنَةَ أَشَدُّ مِنْ

قتلہ تو قتل سے (بھی) سخت تر ہے۔

الْقَتْلِ

۲۴-۱۹۲-۲ ۶۹/۱۰

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ جیسی تم پر اس نے زیادتی کی ہے۔

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

۲۴-۱۹۳-۲ ۷۰/۹

وَأَنْتَقُوا لِلَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جانتے رہو کہ اللہ پر مہینہ گزاروں کے ساتھ ہے۔

مَعَ الْمُتَّقِينَ

۲۴-۱۹۵-۲ ۷۱/۱۴

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

اور اچھے کام کرتے رہو۔ یقیناً اللہ اچھے کام

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

۴۲ - ۱۹۶ - ۲ - ۸/۴

کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

لِلَّهِ ط

اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا  
کردو۔

۴۳ - ۲۰۶ - ۲ - ۲/۲۶

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي

نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْصَاتٍ

اللَّهُ ط

اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو  
اپنی جان (تک) اللہ کی رضا جوئی میں بیچ  
ڈالتا ہے

۴۴ - ۲۰۷ - ۲ - ۱/۸۷

وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

اور اللہ بندوں کے حق (میں) بڑا شفیق ہے۔

۴۵ - ۲۱۳ - ۲ - ۲۶/۱۸

الْآرَابُ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبَهُ ۝

کن رکھوا اللہ کی امداد یقیناً قریب ہی ہے

۴۶ - ۲۱۵ - ۲ - ۱/۵۳

قُلْ مَا أُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ

فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَ

الْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَن

السَّبِيلِ ط

آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہیں مال سے خرچ  
کرنا ہے سو وہ حق ہے والدین کا اور  
عزیزوں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور  
مسافروں کا۔

۴۷ - ۲۱۶ - ۲ - ۴۴/۴۰

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُوَ اسْتِيبًا

وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۝

ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو  
اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔

۴۸ - ۲۱۶ - ۲ - ۲۷/۱۶

اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو

پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں  
بدتر ہو۔

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ  
شَرٌّ لَّكُمْ ط

۲۴ - ۲۱۷ - ۲  $\frac{۷۹}{۲۱/۳}$

اور فتنہ قتل سے (کہیں) بڑھ کر ہے۔

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط

۲۴ - ۲۲۰ - ۲  $\frac{۸۰}{۱۵/۱۱}$

اور اللہ کو علم ہے کہ مفید (کون) ہے۔  
اور مصلح (کون) ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُنْفِئَ مِنَ  
الْمُضِلِّ ط

۲۴ - ۲۲۰ - ۲  $\frac{۸۱}{۱۱/۱۱}$

اللہ یقیناً زبردست ہے حکمت والا۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

۲۴ - ۲۲۱ - ۲  $\frac{۸۲}{۲۲/۲۲}$

کہ مومنہ کنیز تک بہتر ہے (آزاد)  
مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں  
پسند ہو۔

وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ  
مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ط

۲۴ - ۲۲۱ - ۲  $\frac{۸۳}{۲۲/۲۲}$

اور مومن غلام تک بہتر ہے مشرک  
(آزاد) سے اگرچہ وہ تمہیں پسند  
ہو۔

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ  
مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ط

۲۴ - ۲۲۱ - ۲  $\frac{۸۴}{۱۱/۱۲}$

وہ لوگ دوزخ کی طرف بلا تے ہیں۔

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ط

۲۴ - ۲۲۱ - ۲  $\frac{۸۵}{۶/۸}$

اور اللہ جنت اور مغفرت کی

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ ط

وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ ۝

طرف بلا رہا ہے۔

۸۶ - ۲۲۲ - ۷ - ۲۲/۲۹

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

بیشک اللہ محبت رکھتا ہے تو بہ

کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے

پاک عاف رہنے والوں سے۔

الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

۸۷ - ۲۲۲ - ۲ - ۲۲/۱۰

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً

اور مت بناؤ اللہ کے نام کو حجاب

اپنی قسمیں کھانے کے لیے۔

لِأَيِّمَانِكُمْ

۸۸ - ۲۲۵ - ۲ - ۲۲/۳

وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا بڑبار

ہے۔

۸۹ - ۲۲۶ - ۲ - ۲۲/۵

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ

یہ (سب) اللہ کے ضابطے ہیں ان

سے باہر نہ نکلنا۔

تَعْتَدُوها ۝

۹۰ - ۲۳۱ - ۲ - ۲۲/۳۳

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ

اور اللہ کے احکام کو ہنسی اچھیل،

نہ جھجھو۔

هُزُوًا ۝

۹۱ - ۲۳۱ - ۲ - ۲۲/۱۶

وَأَنْفُوا اللَّهَ دَاعِلَةً أَنْ اللَّهَ

اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے

رہو کہ اللہ سب چیز کا جاننے والا ہے۔

يَكُنْ شَيْءٌ عَلَيْهِ ۝

۹۲ - ۲۳۲ - ۲ - ۲۲/۱۶

ذَلِكَمُؤَاذِنَةٌ لَّكُمْ وَ

جی تمہارے حق میں پاکیزہ تر اور

سماں تر ہے۔

أَنْظُرُهُ ۝

۲۰ - ۲۳۳ - ۲  $\frac{۹۳}{۲۸/۳}$ 

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِجْرًا إِلَّا وُسْعَهَا

کسی شخص کو حکم نہیں دیا جاتا۔ بجز اس کی  
برداشت کے بر قدر۔۳۰ - ۲۳۳ - ۲  $\frac{۹۴}{۱/۸}$ 

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے  
رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا  
خوب دیکھنے والا ہے۔۳۱ - ۲۳۴ - ۲  $\frac{۹۵}{۱۹/۱۴}$ 

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ

اور اگر تم (اپنا حق) معاف کر دو تو  
یہ بہت قرین تقویٰ ہے۔۳۱ - ۲۳۵ - ۲  $\frac{۹۶}{۱/۱۰۶}$ 

وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

اور آپس میں لطف و احسان نظر  
انداز نہ کرو۔۳۱ - ۲۳۸ - ۲  $\frac{۹۷}{۱۵/۱۳}$ 

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

دسب ہی، نمازوں کی پابندی رکھو  
اور (خصوصاً) درمیانی نماز کی۔۳۱ - ۲۳۸ - ۲  $\frac{۹۸}{۱۵/۱۳}$ 

وَقَوْمًا يَلتَمِسُونَ

اور اللہ کے سامنے عاجزوں کی  
طرح، کھڑے رہا کرو۔۳۲ - ۲۳۷ - ۲  $\frac{۹۹}{۱/۳۴}$ 

وَاللَّهُ يُؤْتِي مَدَكَ مِنْ

اور اللہ اپنا مال جسے چاہتا ہے  
دیتا ہے۔

يَشَاءُ ط

۳۳ - ۲۳۹ - ۲  $\frac{۱۰۰}{۱/۱۱۰}$

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ  
عَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةً  
بِأَذْنِ اللَّهِ

بارہا چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر  
اللہ کے حکم سے غالب آگئی  
میں۔

۱۱/۵ - ۲ - ۲۳۹ - ۳۳

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

اور اللہ تو نصیب کرنے والوں کے  
ساتھ ہے۔

۱۱/۲ - ۲ - ۲۵۰ - ۳۳

رَبَّنَا: فِرْعَوْنًا عَلَيْنَا صَبْرًا  
وَتَبَّتْ أَعْدَامُنَا وَانصُرْنَا  
سَيِّئَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر  
نصیب ہوا دل کے اور ہمارے قدم جھانے  
رکھو اور ہمیں غالب کرکافرو  
لوگوں پر۔

۱۱/۳ - ۵ - ۲۵۱ - ۳۳

وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى  
الْعَالَمِينَ

لیکن اللہ تو جہاں والوں پر بڑا افضل  
رکنے والا ہے۔

۱۱/۴ - ۳ - ۲۵۲ - ۳۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا  
مِمَّا زُرْنَا كَمَا مَنِ قَبْلَ أَنْ  
يَأْتِي يَوْمَ يُبْعَثُ فِيهِ وَلَا  
خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

اے ایمان والو! جو کچھ تم نے نہیں دیکھا  
لکھا ہے۔ ان میں نہ چھ کرو۔ قبل ان  
کے کہ وہ ان آجائے جس میں نہ  
تجارت کام آئے گی نہ دوستی اور  
نہ سفارش۔

۱۱/۵ - ۳ - ۲۵۵ - ۳۳

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ  
الْقَيُّومُ

اللہ ہے کہ کوئی معبود اسکے سوا نہیں  
اور زندہ ہے۔ سب کا سمجھنے والا۔

۱۰۶ - ۳ - ۲۵۵ - ۳۴  
۱/۱۱۰

اور اس پران کی نگرانی ذرا بھی گراں نہیں  
اور وہ بلند اور بڑا ہے۔

وَلَا يُوَدُّكَ حَفِظُهُمَا وَهُوَ  
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

۱۰۷ - ۳ - ۲۵۶ - ۳۴  
۱/۹

دین میں کوئی زبردستی نہیں۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَفْ

اللہ ان لوگوں کا دوست و مددگار  
ہے جو ایمان لائے۔

۱۰۸ - ۳ - ۲۵۷ - ۳۴  
۱/۱۳

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا

۱۰۹ - ۳ - ۲۶۱ - ۳۴  
۱/۵۹ - ۱/۹۸

اللہ جسے چاہے افزوتی دیتا رہتا ہے اللہ  
بڑا وسعت والا ہے بڑا علم والا ہے۔

وَاللَّهُ يُضِعُّ لِمَنْ يُشَاءُ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

۱۱۰ - ۳ - ۲۶۳ - ۳۴  
۱۵/۷

مناسب بات اور درگزر ایسی خیرات  
سے بہتر ہے جس کے عقب میں  
اذیت ہو۔

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ  
خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبَعُهَا  
أَذًى ط

۱۱۱ - ۳ - ۲۶۴ - ۳۴  
۱۵/۷

اے ایمان والو اپنے صدقوں کو  
احسان دکھ کر، اور اذیت (بہ نونچا  
کر، باطل نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ  
وَالْأَذَى ط

۱۱۲ - ۳ - ۲۶۸ - ۳۴  
۱۳/۱۹

اور شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے  
اور حکم دیتا ہے بخل کا۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ  
يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ط



اور اٹھ تم سے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔	$\frac{113}{1/104} \text{ - 3 - 248 - 34}$ <p>وَاللّٰهُ يَعِدُّكُمْ مَّغْفِرَةً لِّمَنَّهُ وَقَضَلًا ط</p>
اور جسے حکمت عطا ہوگی اسے یقیناً خیر کثیر عطا ہوگی۔	$\frac{112}{8/21} \text{ - 3 - 249 - 34}$ <p>وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط</p>
وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔	$\frac{115}{13/2} \text{ - 3 - 243 - 34}$ <p>لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِعْجَافًا</p>
اور تم ہاں میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو ان کا خوب جاننے والا ہے۔	$\frac{114}{1/153} \text{ - 3 - 243 - 34}$ <p>وَمَا تَنْفَعُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ط</p>
ملا لکھا شدنے سے کو سال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔	$\frac{116}{2/24 - 12/14} \text{ - 3 - 245 - 38}$ <p>وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط</p>
اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔	$\frac{118}{15/4 - 12/12} \text{ - 3 - 244 - 39}$ <p>يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُزِيْدُ الصَّدَقَاتِ ط</p>
اور اگر شدت ہے تو اس کے لیے (اوائی قرض میں) اسوۂ عالی تک بہت ہے	$\frac{119}{22/4} \text{ - 3 - 280 - 39}$ <p>وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَّيْسَرَةٍ ط</p>
	$\frac{120}{22/4} \text{ - 3 - 282 - 39}$

جب ادھار کا معاملہ کسی مدت معین تک  
کرنے لگو تو اسکو لکھ لیا کرو۔

إِذْ أَنْتَ آيُنْتَهُ بِدَايِنٍ إِلَىٰ آجَلٍ  
مُّسْتَقَيٍّ فَالْكَتُبُوهُ ۝ ط

۱۲۱  
۱۳/۱۸ - ۳ - ۲۸۲ - ۳۹

اور گواہ جب بلائے جائیں تو انکار  
نہ کریں۔

وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَّا  
دُعُوا ۝ ط

۱۲۲  
۱/۹۲ - ۳ - ۲۸۲ - ۳۹

اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۝ ط

۱۲۳  
۱/۱۳۳ - ۳ - ۲۸۳ - ۳۹

تو جس کا اعتبار کیا گیا اسے چاہیے کہ  
امانت کا (حق) ادا کرے۔

فَلْيُوَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ  
أَمَانَتَهُ ۝ ط

۱۲۴  
۱۳/۱۸ - ۳ - ۲۸۳ - ۳۹

اور گواہی کو مت چھپاؤ۔

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۝ ط

۱۲۵  
۱۲/۶ - ۳ - ۲۸۴ - ۴۰

اللہ کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے  
اور جو کچھ زمین میں ہے۔

بِهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي  
الْاَرْضِ ۝ ط

۱۲۶  
۲۸/۳ - ۳ - ۲۸۶ - ۴۰

اللہ کسی کو اسکی قوت برداشت سے  
زائد کی تکلیف نہیں دیتا۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا  
وُسْعَهَا ۝ ط

۱۲۷  
۱/۲۱ - ۳ - ۲۸۶ - ۴۰

اور ہم سے درگزر کرو اور ہم کو بخش دے  
اور ہم پر رحم کر۔

وَاعْفُ عَنَّا قَدْ وَاغْفِرْ لَنَا قَدْ  
وَارْحَمْنَا قَدْ

۱۲۸  
۱/۲۱ - ۳ - ۲۸۶ - ۲۰

اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلٰی  
الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

تو ہی ہمارا کارساز ہے سو ہم کو غالب  
کر کافر لوگوں پر۔

## ۳ آل عمران

۱  
۱/۲۵ - ۳ - ۱ - ۶

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ  
كَيْفَ يَشَاءُ ۝ ط

وہ وہی (خدا) ہے جو تمہاری صورت رسول  
کے اندر بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے

۲  
۱/۱۱ - ۳ - ۶ - ۱

لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

کوئی خدا نہیں بجز اس کے۔ وہ بڑا زبردست  
ہے۔ بڑا حکمت والا ہے۔

۳  
۲/۱ - ۳ - ۴ - ۱

وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ ۝

در انحالیکہ کوئی اس کا صحیح مطلب  
نہیں جانتا بجز اللہ کے۔

۴  
۱۵/۱ - ۳ - ۴ - ۱

وَمَا يَدْرِكُهُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ ۝

اور نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول  
کرتے ہیں۔

۵  
۱۹/۲ - ۳ - ۱۳ - ۲

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۝

بی شک اس واقعہ میں اہل بصیرت کے  
یہ بڑا سبق ہے۔

۶  
۱/۶۳ - ۳ - ۱۵ - ۲

وَاللّٰهُ نَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۝

اور اللہ اپنے بندوں کا نصیب رکھنے والا ہے

۷  
۲/۱۷ - ۳ - ۱۷ - ۲

اور پہلی رات میں گناہوں

بخشش چاہنے والے ہیں۔

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝

$\frac{۳-۱۸-۲}{۱۳/۱۸}$

اللہ کی گواہی ہے کہ کوئی معبود نہیں بخیر  
اس کے۔

شَرِهَدَا اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا  
هُوَ ۝

$\frac{۳-۱۹-۲}{۱/۳۵}$

یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک اسلام  
ہی ہے۔

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۝

$\frac{۳-۱۹-۲}{۲۳/۲}$

اور جو اللہ کی آیتوں سے انکار کریگا سو  
اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔  
اگر وہ اسلام لے آئے تو بس راہ  
ہدایت پر آگئے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ  
اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

$\frac{۳-۲۰-۲}{۱/۳۵}$

فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدْ اِهْتَدَوْا ۝

$\frac{۳-۲۲-۲}{۱/۱۶۰}$

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيْرِيْنَ ۝

$\frac{۳-۲۶-۳}{۱/۶۴-۱/۶۴}$

تو جسے چاہے عزت دے اور تو  
جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے  
ہی ہاتھ میں بھلائی ہے بیشک تو ہر  
چیز پر قادر ہے۔

وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن  
تَشَاءُ ۝ ط بِيْدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

$\frac{۳-۲۶-۳}{۱/۱۴}$

اور جسے چاہتا ہے بے حساب

وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ

حَسَابٍ ۵

رزق دیتا ہے۔

۱۵  
۳۰۲۸-۳۱ / ۱/۳۰-۳۲/۳۵لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ  
اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۴مومنوں کو نہ چاہیے کہ مومنوں کے  
ہوتے ہوئے کافروں کو (اپنا)  
دوست بنائیں۔

وَيَحْذَرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۶

اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے۔

۱۶  
۳۰۲۹-۳۱ / ۱/۸۱قُلْ اِنْ تَحْضُرُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِيْكُمْ  
اَوْ تَبْدُوْا ۚ يَعْلَمُهٗ اللّٰهُ ۷آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں  
میں ہے تم اسے خواہ پوشیدہ رکھو یا  
ظاہر کرو اللہ اسکو جانتا ہے۔۱۷  
۳۰۳۰-۳۱ / ۱/۲۶قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ  
اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ  
اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  
ذُنُوْبَكُمْ ۸آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت  
رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم  
سے محبت کرنے لگے گا۔ اور تمہارے  
گناہ بخش دے گا۔۱۸  
۳۰۳۲-۳۳ / ۱/۲۸

اَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۹

اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔

۱۹  
۳۰۳۴-۳۵ / ۱/۱۱۱

وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۱۰

اور اس کو اچھی نشوونما دیا۔

۲۰  
۳۰۳۶-۳۷ / ۱/۱۱۳

اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حَسَابٍ ۱۱

بیشک اللہ جس کو چاہتا ہے۔ بے  
مساب رزق دے دیتا ہے۔

۳۱/۱ - ۳ - ۳۸ - ۴

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ  
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس  
سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر۔ بیشک  
تو دعا کا درجہ (بڑا) سننے والا ہے۔

۲۲/۱ - ۳ - ۴۰ - ۴

كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو کچھ وہ  
چاہتا ہے۔

۲۳/۸ - ۳ - ۴۱ - ۴

وَإِذْ كُرِّرْنَا بِكَ كَثِيرًا ۚ وَسَبَّحُوا  
بِالْعَنِينِ وَالْإِبْكَارِ ۝

اور اپنے پروردگار کو بہ کثرت یاد کرتے  
رہو اور تسبیح کرتے رہو۔

۲۴/۱۵ - ۳ - ۵۱ - ۵

إِنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ  
فَاعْبُدُوهُ ۗ هَذَا صِرَاطٌ  
مُسْتَقِيمٌ ۝

بیشک اللہ میرا بھی پروردگار ہے،  
اور تمہارا بھی پروردگار ہے سواں کی  
عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے۔

۲۵/۱۹ - ۳ - ۵۲ - ۵

مِنَ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۗ

میرا کون مددگار ہوگا اللہ کے راستہ میں۔

۲۶/۲۲ - ۳ - ۵۴ - ۵

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ  
خَيْرُ الْمَكْرِينَ ۝

اور انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ  
نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب خفیہ  
تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔

۲۷/۱۶۲ - ۳ - ۵۷ - ۵

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں  
نے نیک عمل (بھی) کئے سوائے

انہیں انکے پورے پورے حصے دے گا۔

الصَّالِحَاتِ قَبُولِهِمْ أَجْرَهُمْ

۶۰-۶۲-۳ ۲۸/۶۵

کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ

۷۹-۶۶-۳ ۲۹/۹۸

اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

۳۰-۶۸-۳ ۳۰/۱۳۰

اور اللہ ایمان لانے والوں کا نامی ہے۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

۳۱-۷۳-۳ ۳۱/۱۰۶

آپ کبر و بھجے کر فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ

ہے وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ

يُؤْتِيهِمْ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

بڑا وسعت والا ہے بڑا علم والا ہے۔

عَلِيمٌ

۳۲-۷۴-۳ ۳۲/۸۷

وہ جسے چاہے اپنی رحمت کی مانند

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ

خاص کر لیتا ہے۔

۳۳-۷۶-۳ ۳۳/۹۹

کیوں نہیں جو شخص بھی اپنے عہد کو پورا

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ

کرے اور اللہ سے ڈرے تو بیشک

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

۳۴-۸۳-۳ ۳۴/۹

پھر جو کوئی اسکے بعد بھی روگردانی کر دیا

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

مسوہی لوگ نافرمان ہیں۔

هُمُ الْفَاسِقُونَ

اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور

۳۵-۸۵-۳ ۳۵/۱۳۵

دین کو تلاش کرے گا۔ وہ اس سے  
ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا  
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ

۳۶  
۱۸/۳ - ۸۶ - ۹

اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت  
نہیں دیتا۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

۳۷  
۱۵/۳ - ۹۲ - ۱۰

جب تک اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو  
گے دکال اینکی کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکو گے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا  
رَحِبْتُمْ ۗ

۳۸  
۲۶-۲۷ - ۹۵ - ۱۰

سو تم سیدھی راہ والے ابراہیم کے  
دین کی پیروی کرو۔

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
حَنِيفًا ۗ

۳۹  
۲۷/۲۹ - ۹۶ - ۱۰

سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے  
یہے وضع کیا گیا وہ وہ ہے جو مکہ  
میں ہے (سب کے لیے) برکت والا  
اور رارے جہاں کیلئے رہنما۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى  
لِلْعَالَمِينَ ۝

۴۰  
۲۷/۲۹ - ۹۷ - ۱۰

اس میں کھلے ہوئے نشان ہیں۔ ان میں سے  
ایک مقام ابراہیم ہے اور جو کوئی اس میں  
داخل ہو جاتا ہے وہ امن سے ہو جاتا ہے۔  
اور لوگوں کے ذمہ ہے حج کرنا اللہ  
کے لیے اس مکان کا (یعنی) اس

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ  
إِبْرَاهِيمَ ۗ وَ مَنْ دَخَلَهُ  
كَانَ آمِنًا ۗ

۴۱  
۸/۳ - ۹۷ - ۱۰

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَظِيظٌ



شخص کے ذمہ جو وہاں تک پہنچنے کی  
قدرت رکھتا ہے۔

الْبَيْتِ مَنِ اسْتَنْطَأَ إِلَيْهِ  
سَبِيلًا ط

۳۲ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰  
۱۵/۱۰

اور جو کوئی اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے اور  
ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت  
کیا جاتا ہے۔

وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَتَدْرُ  
هُدًى إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ ؕ

۳۳ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰  
۲۶/۹

اسے ایمان والو اللہ سے ڈرو جو  
اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور  
جان نہ دینا۔ بجز اس حال کے کہ  
تم مسلم ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا  
اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا  
إِلَّا وَآئِلَتُمْ قُسُيُوتٍ ۝

۳۴ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰  
۱/۱۱۹

اور اللہ کی رسی سے لڑو۔ اور اللہ سے  
ڈرو اور باہم نا انصافی نہ رو۔

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ  
جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۝

۳۵ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰  
۱۶/۱۶

اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو  
کہ جب تم دباہم دشمن تھے تو اس  
نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال  
دی سو تم اس کے انعام سے داپس میں،  
بھائی بھائی بن گئے اور تم دوزخ کے  
گڑھے کے کنارے پر تھے سو

وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ  
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ  
عَلَى شَفَا حُفْرَةِ قَيْمِنَ النَّارِ  
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۝

اس نے تمہیں اس سے بچایا۔

۳۵  
۲۲/۲۳ - ۴ - ۱۰۶ - ۱۱

اس روز (جس روز) بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَّاَسْوَدُّ وُجُوهٌُ

۳۶  
۲۲/۱۳ - ۴ - ۱۰۹ - ۱۱

اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کی طرف (سارے) امور لوٹائے جائیں گے۔

وَاللّٰهُ مٰبِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۗ وَاِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْر

۳۷  
۹/۱۰ - ۴ - ۱۱۰ - ۱۲

تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ اور بُرائی سے روکتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

۳۸  
۹/۹ - ۱/۱۳۷ - ۱/۱۶۲

یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اور بدی سے روکتے ہیں اور اچھی باتوں کی طرف دوڑتے ہیں۔

يُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَّيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ يُسَارِعُوْنَ فِی الْخَيْرٰتِ ۗ

۳۹  
۱۲ - ۱۱۹ - ۴ - ۱/۹۸

بیشک اللہ والوں کی باتوں کو

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذٰتِ

- الصُّدُورِ ۵۰  
۱۲-۱۲۰-۴ ۱/۱۱۶
- خوب جانتا ہے۔
- إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ  
مُحِيطٌ ۵۱  
۱۳-۱۲۲-۴ ۲/۱۸
- بیشک اللہ ان کے اعمال پر (پورا) احاطہ رکھتا ہے۔
- وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ ۵۲  
۱۳-۱۲۳-۴ ۲۴/۱۸
- اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر اعتماد رکھنا چاہیے۔
- وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ  
وَأَنْتُمْ آذِلَّةٌ ۵۳  
۱۳-۱۲۳-۴ ۱/۸
- اور یقیناً اللہ نے تمہاری نصرت کی بدر میں حالانکہ تم پست تھے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو۔
- فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكِرُونَ ۵۴  
۱۳-۱۲۶-۴ ۲۶/۱۸
- عجب کیا کہ شکر گزار بن جاؤ۔
- وَمَا تَنْصُرُوا إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۵۵  
۱۳-۱۳۸-۴ ۱/۴۲
- ورنہ نصرت تو بس زبردست اور حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
- لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ  
شَيْءٌ ۵۶  
۱۴-۱۳۱-۴ ۲۶/۸
- اے کوا اس امر (یعنی کسی کے مارنے جلانے میں) کوئی دخل نہیں۔
- وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ  
لِلْكَافِرِينَ ۵۷
- اس آگ سے بچو جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے۔

۱۴-۱۳۲-۴  $\frac{۵۷}{۱/۲۸}$

اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو  
تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ ۝

۱۴-۱۳۳-۴  $\frac{۵۸}{۲۶/۲۶}$

اور مغفرت کی طرف جو تمہارے پروردگار  
کی طرف سے ہے (دوڑو) جس کا عرض  
سارے آسمان اور زمین ہیں اور جو  
پرہیزگاروں کیلئے تیار کی گئی ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَا يُعَدَّتْ  
لِلْمُتَّقِينَ ۝

۱۴-۱۳۴-۴  $\frac{۵۹}{۲۶/۱۲}$

اور غصہ کے ضبط کرنے والے ہیں اور  
لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ  
احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔  
اور اپنے گناہوں سے معافی طلب  
کرنے لگتے ہیں۔

وَالْكُظُمِيَّةَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ  
عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۴-۱۳۵-۴  $\frac{۶۰}{۴/۱۶}$

اور اللہ تعالیٰ کے سوار ہے کون جو  
گناہوں کو بخشتا ہو۔

فَاسْتَعْفِرُوا لِلذَّنُوبِ بِهِمْ  
م

۱۴-۱۳۵-۴  $\frac{۶۱}{۱/۱۳}$

اور کام کرنے والوں کے لیے کیا اچھا  
معاوضہ ہے۔

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا  
اللَّهُ ۗ قَف

۱۴-۱۳۶-۴  $\frac{۶۲}{۱/۹}$

وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ۝

$\frac{۶۳}{۱۳/۱۵ - ۱۹/۲ - ۲۶/۲۴}$

۱۴-۱۳۷-۴

فَسَيُرَوِّدُنِي الرَّجُلُ الْمُشْرِقُ فَنَسْرُوهُ  
يَفْعَلُونَ عَزَائِبًا لِّمَن دَرَبَ بَيْنَهُ

سو تم روسے زمین پر چلو پھیرو اور  
دیکھ لو کہ ہٹلانے والوں کا کیا  
انجام ہوا۔

۶۳ - ۱۳۸ - ۴ - ۱/۱۳۱

هُدًى وَتَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت  
اور نصیحت ہے۔

۶۵ - ۳۹ - ۴ - ۱/۱۴۲

وَلَا يَذَّبُوا وَلَا تَحْنَبُوا وَأَنْتُمْ  
الْأَعْدَاءُونَ إِن كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ ۝

اور نہ سمت بارو اور نہ علم کرو۔ تم ہی  
غائب رہو گے اگر تم مومن رہے (ایمانیت  
پر عمل کرو گے تو برتری پا لو گے)۔

۶۶ - ۱۴۰ - ۴ - ۱۶/۲

وَتِلْكَ آيَاتُ نَدَائِهِمْ  
بَيْنَ النَّاسِ ۝

اور ہم ان آیات کی امداد بھیجے تو ان کے  
درمیان کرتے ہی رہتے ہیں۔

۶۶ - ۱۴۵ - ۴ - ۲۶/۳

مَا كَانَ يَنْتَهِسُ أَنْ تَمُوتَ  
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا  
مُّوعَدًا ۝

اور ممکن نہیں کسی کے مرنے کو ایک  
معیارہ قرار دے کہ خدا کے بغیر  
مر جائے۔

۶۷ - ۱۴۵ - ۴ - ۱۱۴/۱

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا  
فَلْيَأْتِ بِهَا

اور جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہتا ہے۔ ہم  
اسکو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں۔

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ  
فَلْيَأْتِ بِهَا وَسَيَجْزِي

اور جو کوئی آخرت کا نفع چاہتا  
ہے تو اسے اس آخرت کا حصہ

الشَّكِرِينَ ۝

دے دیتے ہیں اور عنقریب ہم شکر  
گزاروں کو بدلہ دے دیں گے۔

۶۹  
۱/۲۱ - ۲ - ۱۴۴ - ۱۵

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ  
اسْرَافَنَا فِيْ اٰمْرِنَا وَثَبِّتْ  
اَقْدَامَنَا وَالنُّصْرَةَ عَلٰى  
الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

اے ہمارے پروردگار ہمارے  
گناہوں کو اور ہمارے باب میں  
ہماری زیادتیوں کو بخش دے۔ اور ہم  
کو ثابت قدم رکھ۔

۲۳/۲  
۲ - ۱۴۹ - ۱۶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِن  
نَّطِيعُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اٰعْقَابِكُمْ  
فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

اے ایمان والو! اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو  
گے جو کافر ہیں تو وہ تمہیں پچھلے پیروں  
کفر کی طرف واپس کر دیں گے۔ اور تم  
گھاٹے میں اکر رہ جاؤ گے۔

۴۱  
۱/۱۳۰ - ۲ - ۱۵۰ - ۱۶

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ  
خَبِيْرٌ النَّصِيْرِيْنَ ۝

البتہ تمہارا دوست اللہ ہے  
وہ تمہارے دوست نہیں، اور  
وہ بہترین مددگار ہے۔

۴۷  
۱/۴ - ۲ - ۱۵۱ - ۱۶

وَبَشِّرِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

اور وہ کسی بڑی جگہ ظالموں کیلئے ہے۔  
آپ کہہ دیجئے کہ اختیار تو سارا  
اللہ کا ہے۔

۴۳  
۱/۳۶ - ۲ - ۱۵۲ - ۱۶

قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ ۝

۴۲  
۲۶/۲۲ - ۲ - ۱۵۴ - ۱۴

وَلٰئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ

اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ

یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت  
اس سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع  
کر رہے ہیں۔

اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے  
رہیے۔ لیکن جب آپ پختہ ارادہ کر  
لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھتے بیشک  
ان ان سے محبت رکھتا ہے جو اس  
پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو تم پر کوئی  
غائب نہیں آسکتا۔

حقیقت میں اللہ نے اڑھائی احسان  
مسلمانوں پر کیا جب کہ ان میں سے ایک  
ہر ممبران میں بھیجا جو انکو اس کی آیتیں پڑھ  
کر سنا تا ہے۔ اور انہیں پاک کتاب  
کرتا ہے اور انہیں کتاب و نکتہ  
کی تعلیم دیتا ہے۔

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے  
گئے ہیں انہیں ہرگز وہ موت

اللہِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٍ مِّنَ  
اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِّثْلًا  
يَجْمَعُونَ ۝

۴۵  
۱۸/۴ - ۲۶/۷۶

وَسَأَوْرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا  
عَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

۴۶  
۱۸/۲۸ - ۲۷/۱۶

إِنَّ يَبْضُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَائِبَ  
لَكُمْ ۚ

۴۷  
۲۳/۱۶ - ۲۴/۱۶

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ  
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ  
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ

۴۸  
۱۸/۶ - ۱۶۹/۴

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ  
قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اَمْوَٰنًا ط

خیال کرو۔

۴۹ - ۱۴۱ - ۲ - ۱/۱۰۶

لَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مَنِ  
 اَللّٰهِ وَفَضْلٍ ۗ وَاَنَّ اَللّٰهَ  
 لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں اللہ  
 کے انعام اور فضل پر اور اس پر  
 کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع  
 نہیں کرتا۔

۸۰ - ۱۴۳ - ۲ - ۲/۱۸

حَسْبُنَا اَللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝

ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی  
 بہترین کارساز ہے۔

۸۱ - ۱۴۵ - ۲ - ۱۳/۱۹

اِنَّ مَا ذَلِكُمُ الشَّيْطٰنُ  
 يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ ۗ فَلَا  
 تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنَ  
 اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

یہ تو یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں  
 اپنے دوستوں کے ذریعہ ڈراتا ہے  
 سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو  
 اگر ایمان والے ہو۔

۸۲ - ۱۴۸ - ۲ - ۲۳/۸

اِنَّمَّا نَبِيٌّ لَّهُمْ لِيُذَكِّرَ الَّذِيْنَ  
 اٰثَمُوْا ۝

ہم تو انہیں اس لیے مہلت دے  
 رہے ہیں کہ وہ جرم میں اور بڑھ جائیں۔

۸۳ - ۱۸۰ - ۲ - ۲۶/۳۶

وَاللّٰهُ مِيْرٰثُ السَّمٰوٰتِ  
 وَالْاَرْضِ ط

اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں  
 اور زمین کا۔

۸۴ - ۱۸۲ - ۲ - ۱/۹۶

وَاَنَّ اَللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ

اور اس لیے کہ اللہ بندوں پر



لِلْعَبِيدِۗ

ذرا بھی نلگم کرنے والا نہیں۔

۱۹-۱۸۵-۴-۸۵  
۲۶/۳۰

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِۗ

ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے

۱۹-۱۸۵-۴-۸۶  
۲۲/۲۳

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور تم کو تمہاری پوری پوری مزدوری تو

يَوْمَ الْقِيَامَةِۗ

بس قیامت ہی کے دن ملے گی۔

۱۹-۱۸۵-۴-۸۷  
۴/۸

فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ

تو جو شخص دوزخ سے بچایا گیا اور

وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ

جنت میں داخل کیا گیا وہی ہے

فَازِرٌۗ

کامیاب ہوا۔

۱۹-۱۸۵-۴-۸۸  
۸/۲۶

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے

مَتَاعَ الْغُرُورِۗ

ایک دھوکے کے سودے کے۔

۱۹-۱۸۶-۴-۸۹  
۱۵/۶

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا

اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار

فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ

کرو تو یہ عزم و ہمت کے کام ہیں

الْأُمُورِۗ

(تاکیدی احکام میں سے ہے)

۱۹-۱۸۸-۴-۹۰  
۲/۱۹

وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَدِّثُوا

اور چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کئے

لَمْ يَفْعَلُوا

ہیں ان پر انکی مدح کی جائے۔

۱۹-۱۸۹-۴-۹۱  
۱۴/۶

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
 وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  
 اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی  
 سلطنت ہے اور اللہ ہی ہر چیز  
 پر قادر ہے۔

۹۲/۱ - ۲ - ۱۹۱ - ۲۰  
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا  
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا  
 اے ہمارے پروردگار تو نے یہ (سب)  
 لایعنی (عبث) نہیں پیدا کیا ہے۔

۹۳/۱ - ۲ - ۱۹۵ - ۲۰  
 تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ  
 اور یہ، اللہ کے پاس سے ثواب میگا  
 اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔

۹۴/۸ - ۲ - ۱۹۴ - ۲۰  
 مَنَاصِرٌ قَلِيلٌ لِّقَوْمٍ  
 (یہ) چند روزہ بہار ہے۔

۹۵/۴ - ۲ - ۲۰۰ - ۲۰  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا  
 وَصَابِرُوا وَرَاضِعُوا  
 اے ایمان والو (خود) صبر کرو اور  
 مقابلہ میں صبر کرتے رہو۔ اور مقابلہ  
 کے لیے مستعد رہو۔

## نِسَاءٌ

۱۰۱/۴ - ۱ - ۱۰۱ - ۱  
 وَبَيَّنَّا مِنْهُمْ جَالِدِيًّا  
 وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
 اور ان دونوں (آدم و حوا) سے  
 بہ کثرت مرد اور عورتیں پھیلا دیئے۔  
 اور اللہ سے تقویٰ اختیار کرو۔  
 جس کا واسطہ دیکر ایک دوسرے سے

مانگتے ہو۔ بیشک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے

رَقِيبًا ۵

۲/۲۰ ۴-۴-۱

اور تم بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ  
بِحَسَنَةٍ ۵

۳/۲۲ ۴-۶-۱

اور تمہیوں کی پانچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ عذر نکاح کو پہنچ جائیں۔

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا  
بَلَغُوا النِّكَاحَ ۶

۴/۳۶ ۴-۸-۱

اور جب تقسیم کے وقت اعزہ اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے (کچھ) دے دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ  
فَأَمْرًا فُوهُم وَقُولُوا لَهُمْ  
قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۶

۵/۱۸ ۴-۹-۱

پس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور بات سچی کہیں۔

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا ۷

۶/۲۸ ۴-۱۱-۲

وصیت (نکالنے) کے بعد سبکی وہ وصیت کر جائیں یا ادائے قرض کے بعد۔

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  
بِهَا أَوْ دِينَ ۷

۶/۴۵ ۴-۱۳-۲

یہ سب خداوندی ضابطے میں سے

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۷

۷/۲۱ ۴-۱۵-۲

وَذَلِكَ الْعَوْرُ الْعَظِيمُ

۳-۱۸-۴ - ۹/۲۴/۶

اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ

يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

اور ایسے لوگوں کی تو بہ نہیں ہے جو  
(برابر) گناہ کرتے رہیں۔

۳-۱۹-۴ - ۱۰/۸/۳۰

وَعَاثِرُوا هُنَّ بِالْمَعْمُورِ

اور بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے  
گزر بسر کیا کرو۔

۳-۲۰-۴ - ۱۱/۸/۳۰

وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

اور تم اس بیوی کو (مال کا) انبار  
دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ  
بھی واپس مت لو۔

۳-۲۳-۴ - ۱۲/۱۱/۳۴

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

کہ تم دو بہنوں کو یکجا نہ کرو مگر ہاں جو  
ہو چکا (ہو چکا)۔

۵-۱۹-۵ - ۱۳/۲۶-۸/۸

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَبْ

آپس میں ایک دوسرے کا مال  
ناحق طور پر نہ کھاؤ۔

ہاں البتہ کوئی تجارت باہمی

رہنا مندری سے ہو۔

۵-۳۲-۵ - ۱۴/۱/۱۶

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ

بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى

اور تم ایسے امر کی تمنا نہ کیا کرو جس  
میں اللہ نے تم میں سے ایک کو

بَعْضٌ ط

دوسرے پر بڑائی دینی ہے۔

۱۵  
۱/۲۲ ۴-۳۳-۵

الَّذِينَ جَاءُوا قَوْمُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ

مرد عورتوں کے ساتھ (سرپرست ہیں)

۱۶  
۲۹/۹-۸/۱۳-۱/۶۵ ۴-۳۶-۵

وَأَعْبُدْهُ وَالثَّوَابُ وَلَا تُشْرِكُوا

اللہ کی عبادت کرو۔ اور کسی چیز کو

بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ

اس کا شریک نہ کرو اور سن سلوک

إِحْسَانًا وَأَبْدَىٰ الْقُرْبَىٰ

رکھو والدین کے ساتھ اور قرابت داروں

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں

وَالجَّارِ ذِي الْقُرْبَىٰ

اور پاس والے پڑوسی اور دور

وَالجَّارِ الْجَنَبِ وَالصَّاحِبِ

والے پڑوسی اور ہم مجلس اور

بِالْجَنَبِ وَبِالسَّبِيلِ

راہ گیر کے ساتھ۔

۱۷  
۲/۵ ۴-۳۷-۵

يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ

بِغُلِّ كَرْتے رہتے ہیں اور دوسروں

بِالْبُخْلِ

کو بھی غل کی تعلیم دیتے ہیں۔

۱۸  
۲/۵ ۴-۳۸-۵

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ

بیشک اللہ ایک ذرہ برا ظلم نہیں

ذَرَّةً ۚ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً

کرے گا۔ اور اگر ایک نیکی ہوگی تو

يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ

اسے دوگنا کرے گا۔ اور اپنے پاس

أَجْرًا عَظِيمًا

سے اجر عظیم دے گا۔

۱۹  
۲۶/۱۸ ۴-۳۹-۵

وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ۚ وَ

اور اللہ کا ہماری ہونا کافی ہے

كُفِيَ بِاللّٰهِ نَصِيرًا ۝

اور اللہ کا مددگار ہونا کافی ہے۔

۲۰  
۲۴/۴۴ ۵-۴۴-۷

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔

۲۱  
۱/۹۴ ۵-۴۴-۷

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۝

اللہ تو بیشک اسکو نہ بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔

۲۲  
۸/۱۵ ۵-۵۴-۸

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ

کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں ان چیزوں کے باعث جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھی ہیں۔

عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ

۲۳  
۱/۱۳۳-۲۴/۱۶ ۵-۵۸-۵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا

اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو ادا کرو۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔

الْأَمْنِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

بیشک اللہ تم کو بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ يِعِظُكُمْ

۲۴  
۱/۲۸ ۵-۵۹-۸

بِأَنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے اہل اختیار (حاکم یا امیر)

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ ج

کی اطاعت کرو۔

۲۵  
۱۱/۸ ۸-۵۹-۵

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے  
یہی خوش تر ہے۔

تَأْوِيلًا ۴

۲۶  
۱۳/۱۹ ۹-۶۰-۵

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ

اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انہیں  
بھٹکا کر دور دراز لے جائے۔

صَلَاةً بَعِيدًا ۵

۲۷  
۱۱/۱۶ ۹-۶۹-۵

وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۶

اور یہ کیسے اچھے رفیق ہیں۔

۲۸  
۱۱/۱۶-۱۷/۱۹ ۹-۷۰-۵

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۷

یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور  
اللہ ہی کا علم کافی ہے۔

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ۷

۲۹  
۶/۱۸ ۱۰-۷۱-۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا

اے ایمان والو! اپنی احتیاط  
کرو۔

حِذْرَكُمْ ۸

۳۰  
۱۱/۱۶-۱۷/۱۹ ۱۱-۷۷-۵

إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ

تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں  
سے ایسا ڈرنے لگا جسے اللہ نے

النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ مَتَاءُ

دنیا کا سامان (بہت ہی) تقویر ہے

الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۸

اور آخرت اللہ کے لیے ہمیں بہتر ہے

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ

تقویری اختیار ہے۔

اتَّقَى ۹

اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا

وَلَا تظَلُّونَ فِتْيَلًا ۱/۱۶۵

۳۱  
۱۱-۴۸-۵ ۱/۹-۲۶/۳۰

تم جہاں کہیں بھی ہوں گے وہیں تمہاری  
موت آئے گی۔ خواہ تم مضبوط قلعوں  
ہی میں ہوں۔

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ  
الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ  
مُشَيَّدَةٍ ط

۳۲  
۱۱-۴۸-۵ ۲۹/۵

کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے

قُلْ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ ط

۳۳  
۱۱-۸۰-۵ ۱/۲۸

جس نے رسول کی اطاعت کی اُس  
نے اللہ کی اطاعت کی۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ  
أَطَاعَ اللَّهَ ط

۳۴  
۱۱-۸۲-۵ ۲۲/۵

کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ط

۳۵  
۱۱-۸۵-۵ ۱۲/۱۳

جو کوئی اچھی سفارش کرے گا  
اس کو اس میں سے حصہ ملے  
گا۔

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً  
يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبَ ط

۳۶  
۱۱-۸۵-۵ ۱۳/۱۳-۲/۱۱

اور جو کوئی بُری سفارش  
کرے گا اس پر اس میں سے بار  
رہے گا۔

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً  
يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا كَسَبَ ط

۳۷  
۱۱-۸۶-۵ ۲/۳-۱/۴۳



اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو  
تم اس سے بہتر طور پر سلام کرو۔ یا  
اسی کو لوٹا دو۔ بیشک اللہ ہر چیز  
کا حساب لینے والا ہے۔

وَإِذَا أَحَبَّيْتُمْ بِذَخِيَّةٍ فَوَحْيُوا  
بِأَحْسَنِ مَنْرًا أَوْ رُدُّوْهَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَدُوًّا سَكِينٍ  
نَذِيْعًا حَسِيْدِيًّا

۳۸  
۱/۸۵-۲۲/۲۴-۱/۹۰-۵-۸۴-۱۱

اللہ وہ ہے کہ کوئی مبعود نہیں بخیر  
اس کے۔ وہ ضرور تم (سب) کو  
قیامت کے دن جمع کرے گا۔  
اور کون اللہ سے بڑھ کر باتیں  
سچا ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط لِيَجْمَعَنَّكُمْ  
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تَرِيْبُ  
فِيْهِ ط وَمَنْ أٰصْدَقُ مِنْ  
اللَّهِ حَدِيْثًا

۳۹  
۶/۱۸-۱۲-۹۵-۵-۵

جان اور مال سے جہاد کرنے والوں  
کو بیٹھو رہنے والوں پر درجہ میں  
فضیلت دے رکھی ہے۔

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِيْنَ  
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ سَلَى  
الْفُعَيْدِيْنَ دَرَجَةً ط

۴۰  
۱۵/۱۳-۱۵-۵

تو اللہ کی یاد میں لگ جانا کھڑے  
اور بیٹھے اور لیٹے۔

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَّ  
قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ  
إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰى  
الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّقْشُوْرًا

۴۱  
۱/۲۳-۱۵-۵-۱۶

اور ان (خاتونوں کے طرف دار نہ ہوجائے

وَلَا تَكُنْ لِدَخٰئِنِيْنَ عَصِيْمًا

۲۲  
۲۶/۲۳ - ۲/۱۶  
۱۶ - ۱۰۶ - ۵

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ  
كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

اور آپ اس اللہ سے مغفرت چاہیے  
بیشک اللہ بڑا ہی مغفرت والا ہے  
بڑا ہی رحیم ہے۔

۲۳  
۲۳/۸  
۱۶ - ۱۰۸ - ۵

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ التّٰسِ  
وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ  
وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ  
مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۚ

یہ لوگ آدمیوں سے شرماتے ہیں  
اور اللہ سے نہیں شرماتے جب وہ  
رات میں اس بات کا مشورہ کرتے  
ہیں جو اسے پسند نہیں درانحالیکہ وہ ان  
کے ساتھ اس وقت بھی رہتا ہے۔

۲۴  
۹/۱۶  
۱۶ - ۱۱۰ - ۵

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يُّظَلِمْ  
نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ  
يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

اور جو کوئی بھی بُرائی کرے یا اپنی جان  
پر زیادتی کرے پھر اللہ سے مغفرت  
طلب کرے تو وہ اللہ کو بڑا مغفرت  
والا بڑی رحمت والا پائے گا۔

۲۵  
۱/۹۴  
۱۸ - ۱۱۶ - ۵

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ  
ضَلَّ صَلٰةً كَبِيْرًا ۝

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے  
وہ یقیناً بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔

۲۶  
۱۴/۳  
۱۸ - ۱۲۰ - ۵

وَمَا يَعِيْدُهُمُ الشّٰيْطٰنُ اِلَّا  
غُرُوْرًا ۝

اور شیطان ان سے وعدہ صرف  
فریب کی راہ سے کرتا ہے۔

۴۷  
۱۸-۱۲۲-۵ ۱/۹۰-۱/۱۲۶

وَعَدَا نَدِيهِ حَقًّا ط وَ مَنْ  
اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ه

اللہ کا وعدہ سچا ہے اور  
اللہ سے بڑھ کر کون بات کا  
سچا ہے۔

۴۸  
۱۸-۱۲۵-۵ ۱/۲۱-۱/۲۲

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا قِيْمَتِنَ  
اَسْمَاءَ وَجَرَّةَ بِنْتِ وَ هُوَ  
مُحْسِنٌ وَّ اَتْبَعَهُ مِلَّةَ  
اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا ط وَاَتَّخَذَ  
اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ه

اور دین میں اس سے بہتر کون ہے  
جو اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے  
اور وہ مخلص بھی ہو اور برابر سیم  
راست رو کے مذہب کی پیروی کرے  
اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔

۴۹  
۱۸-۱۲۶-۵ ۱/۱۱۶

وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
مُّحِيطًا ه

اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے  
ہے۔

۵۰  
۱۹-۱۲۷-۵ ۱/۹۸-۱/۱۰۶

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ  
اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ه

اور تم جو کچھ بھی نیکی کرو گے، سو  
اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے۔

۵۱  
۱۹-۱۲۸-۵ ۱۵/۱۱-۱۶/۲۱

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط وَاَحْضَرْتَ  
اِلَّا نَفْسُ الشُّجْحِ ط

اور صلح (دو جہاں) بہتر ہے۔ اور  
طبیعتوں میں تو نخل ہوتا ہی ہے۔

۵۲  
۱۹-۱۲۹-۵ ۸/۲۰

فَلَا تَمَيَّلُوْا اَكْلَ الْمَيْمَنِ

تو تم بائیں طرف نہ اٹکتے جاؤ

تَتَذَرُوهُمَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۝

اور اُسے (بیوی کو) ادھر میں ہلکتی ہوئی  
کی طرح چھوڑ دو۔

۱۹ - ۱۳۲ - ۵  $\frac{۵۳}{۱/۱۲۹}$

وَكُفِيَ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔

۱۹ - ۱۳۳ - ۵  $\frac{۵۴}{۱/۱۲۸}$

إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا  
النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۝

وہ اگر چاہے تو لے لوگوں کو (سب) کو  
لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔

۲۰ - ۱۳۸ - ۵ -  $\frac{۵۵}{۲۶/۲۹}$

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا ۝

اُپ منافقین کو سنا دیجئے کہ ان کے  
لیے عذاب دردناک ہے۔

۲۰ - ۱۳۹ - ۵  $\frac{۵۶}{۲۳/۳-۱۹/۹}$

أَيَّبَتُّغُونَ عِنْدَهُمُ  
الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ  
جَمِيعًا ۝

کیا ڈھونڈتے ہیں اُن (کافروں) کے  
پاس عزت، عزت تو ساری اللہ  
ہی کی ہے۔

۲۰ - ۱۴۰ - ۵  $\frac{۵۷}{۲۴/۱۶}$

أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ  
يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ  
بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى  
يَخْرُجُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ ۝

کہ جب تم اللہ کی نشانیوں کے ساتھ  
کفر اور تمسخر ہوتا ہوا سنا تو ان لوگوں  
کے ساتھ مرت میٹھو۔ یہاں تک کہ وہ  
لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں۔

۲۱ - ۱۴۲ - ۵  $\frac{۵۸}{۲۴/۲۴-۲۴/۳۰-۲۶/۲۹}$

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ

بیشک منافقین تو اللہ سے چال چیل

سبھی میں حالانکہ اللہ انکی چاروں کو ان  
پر اکت رہا ہے۔ اور یہ لوگ سب نماز  
کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی گالی  
سے کھڑے ہوتے ہیں۔

اللَّهُ وَفَوَسَّحَ دَعْرُفُهُمْ ۚ وَإِذَا  
قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا  
كَسَاقٍ ۚ

۵۹  
۲۱-۲۳-۵

زمینان جہاں مسلمان نہ پہنچے۔  
اور عربی کھڑے نہ ہوں گے اور  
یہی کہے۔

مُدَّ بَدَبَيْنَ بَيْنَ ذِيَاتِ ذُرِّيَّتِهِ  
لَأَرْبَى هُوَ لَآءٍ وَرَافٍ  
كَقَوْمِ آدَ ۚ

۶۰  
۲۱-۲۳-۵

اسے ایمان والوں کو سمجھو  
کہ کافروں کو دوست مانتے  
یسا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ  
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

۶۱  
۲۱-۵۳-۵

اگر تم نے ان سے دوستی کر  
لیا۔

وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّمَّا رَاقُوا  
عَلَيْطًا ۚ

۶۲  
۲۲-۱۵۴-۲

حالانکہ وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ  
میں نے اور نہ آپ کو سونے بڑے معاپات  
اور معافان پر مشتبہ ہو گیا۔

وَمَا قَتَلُوا مَنَاصِدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
وَلَكِنْ سَدَّوْا سَبِيلَهُمْ ۚ

۶۳  
۲۲-۱۵۰-۲

انکے پاس کوئی علم نہیں تو بہت

مہارت ہے بہت سے لوگوں پر

ہاں پس گمان کی پیروی ہے۔

اِتَّبَاعَ الظَّنِّ ج

۲۲-۱۶۲-۶ - ۴۳  
۱/۲۶

علم میں پختہ لوگ۔

لٰكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

۲۳-۱۶۶-۶ - ۴۴  
۱۳/۱۸

اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔

وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝

۲۳-۱۶۷-۶ - ۴۵  
۱۶/۱۰

وہ بڑی ہی دور کی گواہی میں جا پڑے

قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ۝

۲۳-۱۶۹-۶ - ۴۶  
۱/۲۲

اور اللہ کے نزدیک یہ آسان

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ۝

ہے۔

۲۳-۱۷۱-۶ - ۴۷  
۱/۷۶

اور اللہ کے بارے میں کوئی بات

وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ اِلٰهًا

سحق کے سوا نہ کہو۔

الْحَقَّ ط

۴۸  
۱/۷۶

اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے۔

اِنَّمَّا اللّٰهُ اِلٰهُ وَّاحِدٌ ط

۱۶

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

میں ہے اور اللہ ہی کا کارساز ہونا

الْاَرْضِ ط وَكَفَى بِاللّٰهِ

کافی ہے۔

وَكَيْلًا ۝

۲۳-۱۷۳-۶ - ۴۸  
۱/۲۳

اے لوگو! تمہارے پاس یقیناً ایک

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

ویل تمہارے پروردگار کے پاس سے  
اچکی ہے۔ اور ہم تمہارے اوپر ایک  
کھلا ہوا نورا تار چکے میں۔

بُرْهَانَ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا  
إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

۶۹  
۲۶/۳۶

ایک مرد کو دو عورتوں کے سحر کے بارے  
میں گناہ

فَلَمَّا ذَكَرَ مِثْلُ سَحْرٍ  
الْأَنْشِيِّينَ

۲۳/۹۸

اور اللہ نے تمہیں سچی وعیدیں  
اور اللہ نے تمہیں سچی وعیدیں

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَظِيمٌ

## مَائِدَة

۱/۹۹

اسے جاننا والو! اپنے ہاتھوں میں  
کو پورا کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا  
بِالْعُقُودِ

۲/۱۰۵

جو اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے ہو  
انسانوں کی کے خلاف رہتے ہیں۔

بَيْنَ بَعْدٍ مِّن فِضْلٍ مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا

۳/۱۹۸

ایک دوسرے کی مدد کی اور تمہاری  
میں آتے رہو۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
الَّتِفْؤَى

۴/۲۰۰

اور اللہ نے تمہیں سچی وعیدیں  
اور اللہ نے تمہیں سچی وعیدیں

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

الْعُدْوَانِ ص

کی مدد نہ کرو۔

۱۰۲-۶-۱/۸

وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک

الْعِقَابِ ؕ

اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

۱-۳۶ ۲/۱۱-۱/۳۵

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر

وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ

اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین

دِينًا

کے پسند کر لیا۔

۱-۳-۶ ۵/۲۲

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ

آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیز کھانے

لَهُمْ ط قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ

کی، ہم پر حلال کی گئی ہے آپ

الطَّيِّبَاتُ ؕ

کہہ دیجئے کہ تم پر دکل، پاکیزہ جانور

حلال ہیں۔

۲-۶-۶-۶ ۱۲/۱

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا

اگر تم حالت جنابت میں ہو تو دسارا

فَاظْفُرُوا ؕ

جسم، پاک صاف کرو۔

۲-۶-۶ ۱/۹۶

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ

اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی

مِنْ حَرْجٍ ؕ

میںگی ڈالے۔

۲-۶-۶ ۱۴/۱۶



بلکہ وہ (تو یہ) چاہتا ہے کہ تمہیں  
خوب پاک صاف رکھے اور تم پر  
اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر  
گزار رہی کرو

وَلٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ  
بِعَمَلِهِ عَلَيْكُمْ لَعَدَّكُمْ  
تَشْكُرُوْنَ ۝

۲۰۸ - ۲ - ۸

اور کسی جماعت کی دشمنی نہیں اس پر  
بڑا مودہ کرے کہ تم اچھے مانتو انصاف  
ہی نہ کرو۔ انصاف کرتے رہو کہ وہ  
تو تم سے بہت قریب ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلٰى اَرْءَآءِكُمْ لَعَدُوًّا  
هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۝

۳۰۳ - ۲ - ۳

جو کہچہ انہیں نصیحت کی گئی تھی اسکا  
ایک دہرا حصہ بھلا بیٹھے ہیں۔

تَسُوْا حِطَّآ قِمًا ذٰكِرُوْا  
بِهٖ ۝

۲۳۸ - ۲ - ۳

تو ہم نے ان میں باجم غنیش اور عداوت  
قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔

فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ  
وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝

۳۰۱۵ - ۲ - ۳

جیسا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے  
ایک روشنی اور واضح کتاب آپکی ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ  
وَ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝

۳۰۲۲ - ۲ - ۳

اور انہیں اپنی توفیق سے نور کی طرف  
تاریکیوں سے نکال کر لاتا ہے۔

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ  
اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِہٖ وَيَهْدِيہُمْ  
اِلٰى صِرٰطٍ مُّبِيْنٍ ۝

اور انہیں سیدھی راہ دکھائے رہتا ہے۔

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۱۳  
۱/۱۳۲ ۶-۱۹-۳

داب تو آگیا تمہارے پاس بشارت  
دینے والا اور تنبیہ کرنے والا۔

فَقَدْ جَاءَكُمْ بُشِيرٌ وَ  
نَذِيرٌ ۝

۱۴  
۲۴/۱۶ ۶-۲۱-۳

اور پھلے پیروں واپس نہ ہو ورنہ  
بالکل خسارہ میں پڑ جاؤ گے۔

وَلَا تَرْتَدُوا عَلَىٰ أَذْبَابِكُمْ  
فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝

۱۵  
۴/۵ ۶-۲۶-۳

سو آپ (اس) جے حکم قوم پر (فرما)  
عزم نہ کیجئے۔

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ  
الْفَاسِقِينَ ۝

۱۶  
۱۱/۵ ۶-۲۸-۵

(کیونکہ) میں تو اللہ پروردگار عالم  
سے ڈرتا ہوں۔

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ  
الْعَالَمِينَ ۝

۱۷  
۲/۱۳ ۲-۳۰-۵

جس سے وہ بڑا نقصان اٹھانے  
والوں میں ہو گیا۔

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

۱۸  
۱۳/۴ ۶-۳۱-۵

عرض وہ (بہت ہی) شرمندہ ہوا۔

فَأَصْبَحَ مِنَ التَّاسِبِينَ ۝

۱۹  
۱/۸-۲۸/۵ ۶-۳۵-۵

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو  
اور اس کا قرب تلاش

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا  
اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهَا

## الْوَسِيلَةَ

کرو۔

۶/۱۸ - ۶ - ۳۵ - ۶

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ  
تُقَدِّحُونَ ۝

اور اسکی راہ میں جدوجہد کرو تاکہ (بہر  
طرح) فلاح پاؤ۔

۶/۱ - ۶ - ۳۱ - ۶

سَمْعُونَ لِيُكَذِّبَ سَمْعُونَ  
يَقَوْمٍ آخِرِينَ ۝

بھروسے کے بڑے سننے والے (جاسوس)  
سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر۔

۶/۳ - ۶ - ۳۲ - ۶

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ  
بِدِينِهِمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

اور اگر آپ فیصلہ کریں تو انکے درمیان  
(قانون) عدل کے مطابق فیصلہ کریں  
بیشک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے

۶/۸ - ۶ - ۳۴ - ۶

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ  
وَلَا تَتَّبِعُوا آيَاتِي شِمْدًا  
قَلِيلًا ۝

سو تم انسانوں سے نہ ڈرو بلکہ بھدست  
ڈرو اور میرے احکام کو دنیا کی سنتات  
قلیل کے عوسن نہ پاتے ہو۔

۶/۱۸ - ۶ - ۳۵ - ۶

وَمَنْ تَرَ جُحُودًا بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ۝

اور جو کوئی اللہ کے نازل کئے ہوئے  
احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے تو  
ایسے ہی لوگ تو ظالم  
ہیں۔

۶/۸ - ۶ - ۳۳ - ۶

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ

اور جو تو تم یقیناً ایسا ہی

اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ  
کس کا ہو سکتا ہے۔

حُكْمًا الْقَوْمِ يُوَقِّنُونَ ۝

۸-۵۱-۶ ۲۵/۱۸

بیشک اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں  
دکھاتا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الظَّالِمِينَ ۝

۸-۵۲-۶ ۲۶/۲۶

اور کسی ملامت گر کی ملامت کا اندیشہ  
نہ کریں گے۔

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۝

۸-۵۲-۶ ۸/۱۰۶

یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ جسے چاہے  
عطا کرے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ  
مَنْ يَشَاءُ ۝ ط

۸-۵۵-۶ ۲۷/۱۳۲

تمہارے دوست تو ہیں اللہ اور اس کا  
رسول اور ایمان والے ہیں۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا ۝

۸-۵۶-۶ ۲۸/۸

سو بیشک اللہ ہی کا گروہ غالب  
ہے۔

فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ  
الْغَالِبُونَ ۝ ع

۹-۵۷-۶ ۲۹/۸

اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان  
والے ہو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ ۝

۹-۶۲-۶ ۳۰/۱/۴۰-۲۴/۲۹

کیسے ہسے ان لوگوں کے کہ توت پر ۔

لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۳۱  
۱۱/۱۱ ۶-۶۳-۹

کیسی بڑی انکی کارستہ نیاں میں ۔

لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

۳۲  
۱۱/۶۲ ۶-۶۳-۱۰

حالانکہ کوئی مہبوز نہیں ہے۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ  
وَاحِدٌ ۝

۳۳  
۱۱/۶۰ ۶-۶۳-۱۰

سو یہ لوگ اللہ کے سامنے کیوں توبہ  
نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں چاہتے۔

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ  
وَيَسْتَغْفِرُونَ ۝

۳۴  
۱۱/۶۹ ۴-۶۳-۱۱

تو آپ ان کی آنکھیں ابھیں گے کہ  
ان سے انسو بہ رہے ہیں اسلئے کہ انہیں  
نے حق کو پہچان لیا ۔

تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ  
الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ  
الْحَقِّ ۝

۳۵  
۲۶/۱۲ ۴-۶۵-۱۱

اور انکو کاروں کا ایسا ہی معناؤں سے ہے۔

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝

۳۶  
۸/۲۲ ۴-۸۹-۱۲

اور اللہ نے جو کچھ ہمیں حلال پالینہ چھوڑا  
اسے انھی میں ان میں سے کہاؤ۔ (۱۱)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا  
طَيِّبًا ۝

۳۷  
۲۲/۱۱ ۴-۸۹-۱۱

اور اپنی قسموں کو یاد رکھاؤ ۔

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۝

۳۸  
۱۳/۱۲-۱۱/۸ ۴-۹۰-۱۳

اے ایمان والو! شراب اور خجوا اور  
بُت اور پانسے تو بس نرمی گندی  
باتیں ہیں۔  
شیطان کے کام سواں سے بچے رہو  
تاکہ فلاح پاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا  
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَنْزَالُ أُمٌ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ۝

۳۹  
۲/۲۹ - ۴ - ۹۰ - ۱۳

اللہ نے کعبہ کے مقدس گھر کو انسانوں  
کے باقی رہنے کا مدار ٹھہرایا ہے۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ  
الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ ۝

۳۰  
۴/۵ - ۱/۱۳۳ - ۴ - ۹۹ - ۱۳

رسول کے ذمہ تو بجز تبلیغ کے اور  
کچھ نہیں۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا  
الْبَدْعُ ۝

۴۱  
۱/۱۵۴ - ۴ - ۱۰۳ - ۱۲

اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اللہ  
نے جو کچھ نازل کیا ہے۔ اس کی طرف  
اور رسول کی طرف اُوتو کہتے ہیں ہمارے  
یہ وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے  
بڑوں کو پایا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ  
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا  
عَلَيْهِ آبَاءَنَا

۴۲  
۱۶/۱۹ - ۴ - ۱۰۹ - ۱۵

تمہیں کیا جواب بلا تھا۔

مَا ذَا أَحْبَبْتُمْ ۝

۴۳  
۱۲/۶ - ۴ - ۱۲ - ۱۶

اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں

بِذِهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا فِيهِمْ مَّا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے اس  
(سب) کی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

## انعام

۱-۱-۶ - ۱/۳۶

وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۝

اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔

۱-۳-۴ - ۱/۱۱۰-۲۲/۴

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ۝  
يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝

وہ تمہارے پورے سیرت و حال، کو بھی  
جانتا ہے اور ظاہر اعمال، کو بھی اور جو  
کچھ تم کرتے رہتے ہو ان کو بھی وہ جانتا ہے۔

۱-۶-۴ - ۱/۱۳۶

إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا سحر ہے۔

۲-۱۱-۴ - ۱/۱۳۷/۱۵

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ عِنْدَ  
النَّظْرِ وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُكْذِبِينَ ۝

زمین پر چلو پھرو۔ پھر دیکھ لو کہ ظہیر  
کسے والوں کا کیا انجام  
ہوا۔

۲-۱۲-۴ - ۱/۱۳۷

كَذَّبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّاحِمَةَ ۝

اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کی ہے  
وہ سب کو کھلاتا ہے انہوں نے اس  
کو کھلا یا نہیں جانتا۔

۲-۱۳-۴ - ۱/۱۳۷

وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَصْعَقُ مَآءًا

۲-۱۴-۴ - ۱/۱۳۷

وَأِنْ يَتَسَوَّكُ اللَّهُ يَضْحَكُ

اور اگر انہوں نے تجھے کوئی اکھڑ پھینکے تو

فَلَا كَانَتْ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ  
 إِنَّ يَسَّ سُبُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اس کا دور کرنے والا (بھی کوئی)  
 نہیں بجز (خود) اسی کے اور اگر وہ  
 تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے  
 پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔

۲-۱۹-۴ - ۱۹/۱۸

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ  
 قُلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَرْتَهَيِّدُ أَبْيَتِي وَ  
 بَيْنَكُمْ قِف

آپ کیسے شہادت سب سے بڑھ کر  
 کس چیز کی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ کی  
 وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔  
 وہ ان (صاحب) کو پہچانتے ہیں جس  
 طرح اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔

۲-۲۰-۴ ۹/۳

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۗ

۲-۲۵-۴ ۱۱/۲۹

يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ  
 الْأَوَّلِينَ ۝

جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے وہ  
 کہتے ہیں کہ یہ تو زلی اگلوں کے  
 خرافات ہیں۔

۲-۲۱-۴ ۱۱/۳۰

قَالُوا إِن حَسْرَتُنَا عَلَىٰ مَا  
 قَرَرْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ  
 أَوْ تَرَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ  
 أَلْسَاءٌ مَّا يَذُرُّونَ ۝

تو بول اٹھیں گے ہائے افسوس ہماری  
 کوتاہی پر جو ہم اسکے بارہ میں کرتے تھے  
 اس حال میں کہ وہ اپنے گناہ اپنی پشتوں  
 پر لا دے ہوں گے۔ دیکھو تو دیکھا  
 ہی (بڑا بوجھ) ہے جس کو یہ لا دے  
 لا دے پھر رہے ہوں گے۔



۱۲  
۲۵/۹ - ۴ - ۳۲ - ۴وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ  
وَلَهْوٌ طاور دنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، بجز  
کھیل تماشہ کے۔۱۳  
۲۶/۱۲ - ۴ - ۳۳ - ۵

فَلَمَّا نَسُوا مَا آذَنُوا رَبَّهُمْ

پھر جب اُن چیز کو جس کی انہیں نصیحت  
کی جاتی تھی بھلا دیتے تھے۔۱۴  
۲۷/۴ - ۴ - ۳۶ - ۵مَنْ إِلَى اللَّهِ عَزِيزٌ يَأْتِيكُمْ  
بِهِ طتو بجز اللہ کے اور کون معبود ہے جو  
یہ (چیزیں) تمہیں دیدے۔۱۵  
۲۸/۲۸ - ۴ - ۵۰ - ۷قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى  
وَالْبَصِيرُ طآپ کہتے کہ اندھا اور بینا کہیں  
برابر ہو سکتے ہیں؟۱۶  
۲۹/۲۲ - ۴ - ۵۳ - ۷فَقُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبِّي  
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ طتو آپ کہتے تھے کہ تم پر سلامتی جو تمہارے  
پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم رکھی ہے۱۷  
۱/۴۴ - ۴ - ۵۷ - ۷

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ط

حکم (تو اور کسی کا) نہیں بجز اللہ کے۔

۱۸  
۳۰/۵ - ۴ - ۵۹ - ۷وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا  
يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ طاور اس کے پاس میں غیب کے خزانے  
انہیں بجز اس کے کوئی نہیں جانتا۔۲۱ - وَمَا تَسْتَشْطِرُ مِنْ ذَرْبٍ  
إِلَّا يَعْلَمُهَا طاور کوئی پتہ نہیں گزتا مگر یہ کہ وہ اسے  
جانتا ہے۔

اور نہ کوئی ترا و نہ خشک چیز مگر دیر کہ یہ سب (روشن کتاب میں) موجود ہیں۔ اور وہ تمہارے اوپر نگران فرشتے بھیجتا ہے۔	وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ ۱۹/۴ - ۲۱ - ۸
آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کچھ داروغہ تو ہوں نہیں۔	وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۝ ۲۰/۵ - ۲۶ - ۸
آپ کہہ دیجئے کہ راہ تو بس اللہ کی (بتائی ہوئی) راہ ہے۔	قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ ۲۱/۳ - ۴۱ - ۹
اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ (سارے) جہانوں کے پروردگار کے (پورے) مطیع ہو جائیں	قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الرُّهُدَى ۝ وَأْمُرْنَا بِنُسُوحٍ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اور یہ کہ نماز کے پابند رہو اور اس سے ڈرتے رہو۔	۱۳/۱۵ - ۸ - ۹ - ۱۴ - ۹
ہم جکے درجے چاہتے بلند کرتے ہیں۔	وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۝ ۲۲/۴ - ۸۳ - ۱۰
یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی سو آپ بھی انکے طریقے پر چلیے۔	نَزَعَهُ دَرَجَاتٍ مِّنْ لَّنَشَاءُ ۝ ۲۳/۵ - ۹۰ - ۱۰
اور وہ اپنی نماز کی حفاظت رکھنے	أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ اقْتَدُوا ۝ ۲۴/۱۵ - ۹۲ - ۱۱
	وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

يُحَافِظُونَ ۝

دلے ہیں۔

۲۵  
۱۱-۹۳-۴ ۱/۵۴-۲/۱۲۰

وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ

اور تم اللہ کی نشانیوں کے مقابلہ

تَسْتَكْبِرُونَ ۝

میں تکبر کیا کرتے تھے۔

۲۶  
۱۲-۹۵-۴ ۱/۴۲

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ

بیشک (اللہ ہی) دانہ اور گٹھلیوں

ط

کو پھاڑنے والا ہے۔

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا

ط

ہے۔

وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ط

اور بے جان کو جاندار سے نکالنے

ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ نُوْفُوْكُمْنَ ۝

والا ہے۔ وہی تمہارا اللہ ہے جو تم

کہاں لٹے چلے جا رہے ہو۔

۲۷  
۱۲-۹۹-۴ ۲/۱

أَنْظُرُوا إِلَىٰ شِمْرَةَ إِذَا اشْمُرُوا

اُس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے

ط وَيَتَّبِعُهُ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ

اور اس کے پکنے کو (دیکھو) بیشک

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

ان سب میں دلائل ہیں ان لوگوں کے

یہ جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں۔

۲۸  
۱۲-۱۰۰-۴ ۱/۶۸

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا

پاک اور برتر وہ اس سے جو کچھ

ط يَصِفُونَ ۝

یہ (اسکے باب میں) بیان کرتے ہیں۔

۲۹  
۱۳-۱۰۱-۴ ۱۲/۶

بِدَايِعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

موجد ہے آسمانوں اور زمین کا۔

۱۳-۱۰۳-۴  $\frac{۳۰}{۱/۶۳}$ 

لَا تَذُرْكَهُ الْآبْصَارُ وَهُوَ

اُسے نگاہیں نہیں گھیر سکتیں۔ وہ نگاہوں

يُذَرِّكُ الْآبْصَارَ وَهُوَ

کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ بڑا باریک

اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

بین ہے۔ بڑا باخبر ہے۔

۱۳-۱۰۴-۴  $\frac{۳۱}{۲/۲۸}$ 

فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ

سو جو کوئی بصارت سے کام لے گا

عَنِّي فَعَلَيْهَا ط

وہ اپنے ہی لیے اور جو کوئی اندھا ہے

۱۳-۱۰۶-۴  $\frac{۳۲}{۴/۵}$ 

وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

گا اں پر (دبالی) رہے گا۔

۱۳-۱۰۸-۴  $\frac{۳۳}{۴/۴}$ 

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ

اور انہیں دشنام نہ دو جن کو یہ لوگ

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ

اللہ کے سوا پکارتے رہتے ہیں ورنہ

عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط

یہ لوگ اللہ کو حد سے گزر کر براہ جہل

دشنام دیں گے۔

۱۳-۱۱۲-۸  $\frac{۳۴}{۲۸/۴}$ 

يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ

ایک دوسرے کو چپنی چپڑی باتوں کا دوسرے

زُخْرُفِ الْقَوْلِ غُرُورًا ط

ڈالتے رہتے ہیں دھوکے کیلئے۔

۱۳-۱۱۴-۸  $\frac{۳۵}{۴/۵}$ 

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

سو آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔

۱۳-۱۱۸-۸  $\frac{۳۶}{۸/۲۲}$

فَكُلُوا مِنَّمَا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ  
عَلَيْهِ -  
سواں (جانور) میں سے کھاؤ جس پر  
اللہ کا نام کہا جائے۔

۳۴  
۲۳/۱ - ۸ - ۱۲۰ - ۱۲۷

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِشْرَافِ  
بَاطِنَهُ ط  
اور چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو (بھی) اور  
اسکے باطن کو (بھی)

۳۸  
۶/۲ - ۸ - ۱۲۱ - ۱۲۷

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَدْعُوا بِاسْمِ  
اللَّهِ عَلَيْهِ -  
اور اس (جانور) میں سے مت کھاؤ  
جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو۔

۳۹  
۱۳/۲ - ۸ - ۱۲۲ - ۱۵

كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ه  
اسی طرح کافروں کی نظر میں خوش نما کر دیا  
گیا ہے جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں۔

۴۰  
۱۳/۴ - ۸ - ۱۲۵ - ۱۵

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ  
يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ  
اللہ جس کسی کے لیے ارادہ کرتا ہے  
کہ اسے ہدایت نصیب کر دے اس کا  
سینہ وہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے۔

۴۱  
۱۵/۱۰ - ۸ - ۱۲۶ - ۱۵

وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ط  
اور یہی تیرے پروردگار کا سیدھا  
راستہ ہے۔

۴۲  
۱۰/۱ - ۸ - ۱۲۷ - ۱۵

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ  
رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ  
ان کے واسطے سلامتی کا گھر ہے ان کے  
پروردگار کے پاس اور وہی ان کا دوست ہے

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۲۳  
۱۶-۱۳۳-۸ ۱/۸۶

برہمب اس کے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۝

۱۷-۱۰۴-۱/۷۴

اور آپ کا پروردگار غنی ہے، صاحبِ رحمت ہے

وہ چاہے تو تم (سب) کو اٹھالے

اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری

جگہ لاسائے۔

وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ

مَنْ يَشَاءُ ۝

۲۴  
۱۶-۱۳۶-۸ ۲۴/۷۴

کیسی بُری ہے انکی تجویز۔

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

۲۵  
۱۶-۱۴۰-۸ ۲۲/۲

بڑے ہی گھاٹے میں وہ لوگ آگے بگھریں

نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا ازراہ حماقت

بغیر کسی بنیاد کے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا

أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ

عِلْمٍ ۝

۲۶  
۱۶-۱۴۰-۸ ۱/۵۲

اور جو کچھ انہیں اللہ نے نصیب

کر رکھا تھا، اُسے (اپنے اوپر) احرام

کر لیا اللہ پر اتر کرتے ہوئے۔

وَحَرَّمَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِنْزَاءً

عَلَى اللَّهِ ۝

۲۷  
۱۴-۱۴۱-۸ ۱/۳۳

اور اسراف مت کرو بیشک اللہ اسراف

کنیوالوں کو پسند نہیں کرتا۔

وَلَا تُسْرِفُوا ۝ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ۝

۲۸  
۱۴-۱۴۲-۸ ۲۶/۲۳

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو

اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ

بغیر علم کے تاکر لوگوں کو گمراہ کرے۔

النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط

۱۸ - ۱۲۷ - ۸  $\frac{۲۸}{۱۸۴}$

تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑی  
وسیع رحمت والا ہے۔

فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ  
وَاسِعَةٍ ج

۱۸ - ۱۲۹ - ۸  $\frac{۲۹}{۸/۵}$

تو پوری حجت تو اللہ ہی کی رہی۔

فَدَلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ج

۱۹ - ۱۵۱ - ۸  $\frac{۵۱}{۱/۹۹ - ۲۸/۲}$

(یعنی یہ کہ) اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک  
مست نہ ہو۔ اور ماں باپ کے ساتھ  
حسن سلوک کرتے رہو اور اپنی اولاد کو  
فلاس (کے خیال سے) قتل مت کر دیا کرو۔

أَلَّا تَنْتَهَرُ كُؤَيْبَهُ شَيْئًا وَ  
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا  
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ط

ہم ہی تو تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور  
ان کو بھی۔

۱۱/۱۳ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ  
إِيَّاهُمْ ج

اور بے حیائیوں کے پاس بھی نہ بدنامی،  
وہ غلامیوں اور (خواہ) پوشیدہ۔

۵۳/۳ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ  
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج

۱۹ - ۱۵۲ - ۸  $\frac{۵۱}{۲۷/۱}$

اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری  
پوری کرو۔ ہم کسی شخص پر اس کے مثل سے  
زائد باز نہیں ڈالتے۔

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ ج لَا تَكْلِفُ نَفْسٌ  
رِزًّا وَسَعَهَا ج

اور جب بولو تو عدل (کا خیال) رکھو اور  
انسان سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو۔

۱/۹۹ وَإِذْ قُلْتُمْ قَاعِدِ لِسْوَا  
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ط

۱۹-۱۵۳-۸ ۵۲/۱۰

اور (یہ بھی کہہ دیجئے) کہ یہی میری سیدی  
شاہراہ ہے سو اسی پر چلو۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ  
فَاتَّبِعُوهُ ۚ

۲۰-۱۵۸-۸ ۵۳/۲۳/۸

آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کئے جاؤ ہم  
(بھی) منتظر ہیں۔

قُلِ انْتظِرُوا وَاِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝

۲۰-۱۶۰-۸ ۵۴/۱۱

جو کوئی نیکی لے کر گئے گا اسکو اسکے مثل  
دس دنکیاں (میں) گی۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ  
عَشْرٌ أَمْثَلِهَا ۚ

۲۰-۱۶۱-۸ ۵۵/۲۶/۲۶

کہ مجھ کو میرے پروردگار نے ایک  
سیدھا راستہ بتا دیا۔

إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ ۚ

ایک دین مستحکم، طریقہ ابراہیم راستہ  
کا۔

۱۹ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ  
حَنِيفًا ۚ

۲۰-۱۶۲-۸ ۵۶/۱۱/۵

کہ میری نماز اور میری داری (عبادتیں)  
اور میری زندگی اور میری موت سب  
جہانوں کے پروردگار اشد ہی کیلئے ہیں۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ  
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۲۰-۱۶۳-۸ ۵۶/۲۳/۱۳

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے  
کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى ۚ



## اعراف

۱-۲-۸- ۲۴/۲۰

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

کم ہی تم لوگ نصیحت قبول کرتے ہو۔

۱-۸-۸- ۲/۲۰

فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝جس کسی کا وزن بھاری ہو گا وہی لوگ  
دور سے کامیاب ہوں گے۔

۱-۱۰-۸- ۱۳/۱۵

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

بہت ہی کم تم لوگ شکر کرتے ہو۔

۱-۱۳-۸- ۱۳/۱۹

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝

بس تو نکل بیشک تو ذلیلوں میں سے ہے۔

۲-۱۴-۸- ۱۳/۱

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ  
شَاكِرِينَ ۝اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار  
نہ پائیں گے۔

۲-۲۳-۸- ۱۳/۲۱

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا سَاءً

اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے  
جانوں پر (بڑا) ظلم کیا۔

۳-۲۶-۸- ۱/۸

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ لَا ذَٰلِكَ  
خَيْرٌ ۝اور تقویٰ کا لباس اس (اس سے بھی)  
بڑھ کر ہے۔

۳-۲۴-۸- ۱۳/۱۹

مَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ

ہم نے شیطانوں کو فریق انہی لوگوں کا بننے

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

۳۰-۲۸-۸۰ ۹/۳

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا  
وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا

۳۰-۲۸-۸۰ ۱۰/۳

إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ط

۳۰-۲۸-۸۰ ۱۱/۸

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ .

۳۰-۲۹-۸۰ ۱۱/۱۲۸

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ قَدْ

۱۰/۲۲۰-۱۰/۱۰  
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ .

۱۰/۱۰  
وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ  
لَهُ الدِّينَ .

۳۰-۲۹-۸۰ ۱۲/۱۵

إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .

۱۲-۳۱-۸۰ ۱۳/۲۳

تُخَذُوا وَإِنَّكُمْ عِنْدَ كُلِّ

دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔

اور جب یہ لوگ کوئی یہودگی کر گزرتے  
ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اسی طریق پر اپنے  
باپ دادا کو پایا ہے۔

اللہ ہر گز یہودگی نہیں بتلاتا ہے۔

کیا اللہ کے ذمہ ایسا جھوٹ لگاتے ہو  
جسکی (کوئی بھی) سند نہیں رکھتے۔

آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے  
تو عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور تم ہر مسجد کے وقت اپنا رخ  
سیدھا رکھا کرو۔

اور اسے (یعنی اللہ کو) پکارا کرو  
دین کو اس کے واسطے خالص کر کے

انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا  
ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ کے حکم  
پر نہیں چلتے خواہشات پر چلتے ہیں۔

ہر نماز کے وقت اپنا عمدہ لباس

پہن یا کرو۔ اور کھاؤ اور پیو لیکن اعراف  
سے کام نہ لو۔ بیشک وہ (اللہ) ہر فن  
کو پسند نہیں کرتا۔

مَسْجِدًا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا  
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ ۴

۱۴/۸ - ۳۴ - ۴۰

اور ہر امت کے لیے ایک میعاد معین  
ہے سو جب انکی میعاد معین آجاتی ہے تو  
وہ ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں  
گئے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا  
جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ  
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

۱۵/۷۸ - ۳۵ - ۴۰

سو جو کوئی تقویٰ اختیار کرے اور  
اپنی اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی  
خوف واقع ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

فَمِنَ اتَّقَىٰ وَأَصْدَقَ فَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ۵

۱۶/۵ - ۴۰ - ۴۰

اور وہ جنت میں داخل نہ ہونگے جب  
تک کہ اونٹ سوئی کے ناکر میں  
نہ سما جائے۔

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ  
يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ  
النَّخِيَّاطِ ۶

۱۶/۲۹ - ۴۳ - ۵۰

کہ دساری (تعریف ہے اللہ کیلئے  
جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا  
لِهَذَا وَقَدْ

۱۸/۴ - ۴۳ - ۵۰

اور ہمیں ندادی جائیگی کہ جسے وہ

وَيُؤَدُّوْنَ آتَانَ تِلْكَ الْجَنَّةِ

جنت ہے جس کے تم وارث ہو گئے ہو  
بعض اسکے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔

أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ۝

۱۹  
۵-۳۷-۸ ۱/۲۱

اے ہمارے پروردگار ہم کو شامل نہ کر  
دان، ظالم لوگوں کے ساتھ۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ  
الظَّالِمِينَ ۝

۲۰  
۶-۳۹-۸ ۲/۸

دانکو توریہ حکم ہو گیا کہ، جنت میں داخل  
ہو جاؤ (جہاں) تم پر نہ کوئی خوف واقع  
ہوگا اور نہ تم منموم ہوں گے۔

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ  
عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

۲۱  
۷-۵۳-۸ ۱/۸

یاد رکھو اسی کے لیے خاص ہے آفرینش  
(بھی) اور حکومت (بھی) برکت سے  
بھرا ہوا ہے، انڈسارے جہانوں کا پروردگار

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ  
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

۲۲  
۷-۵۵-۸ ۱/۲۱

اپنے پروردگار سے دعا کرو، عاجزی کے  
ساتھ اور چپے چپے بیشک وہ حد سے  
نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ  
خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ۝

۲۳  
۲۷/۱۲-۳۱/۸ ۲۷/۱۲-۳۱/۸

۷-۵۶-۸

اور ملک میں اس کی درستی کے بعد  
فساد نہ مچاؤ۔

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ  
إِصْلَاحِهَا ۝

۱۳۔ اِنَّ دَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

مِنْ الدُّحْسَيْنِ ۝

۲۳  
۲۹/۱۰ ۸۰-۶۸-۹

بیشک اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے  
بہت نزدیک ہے۔

وَاِنَّ اَلَكُمْ لَنَاھِمْ اَمِيْنٌ ۝

۲۵  
۱۳/۱۲-۱/۸۳ ۸-۶۹-۹

اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔

فَاذْكُرُوْا الْاِلٰهَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُوْنَ ۝

۲۶  
۲۹/۱۰ ۸-۷۱-۹

سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ (ہر  
طرح) فلاح پاؤ۔

فَاَنْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ

الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

۲۷  
۱۰-۷۳-۸ ۱/۴۵

سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے  
ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔

يُقُوْمِ اَعْبَادٌ وَّ اللّٰهُ مَا لَكُمْ

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۝

۲۸  
۲۹/۱۰ ۸-۷۹-۱۰

اے میری قوم! واللہ ہی کی عبادت کرو  
اسکے سوا کوئی (اور) تمہارا خدا نہیں۔

وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ

النَّصِيْحِيْنَ ۝

۲۹  
۹/۱۱ ۸-۸۲-۱۲

لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں  
کرتے تھے۔

وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَبِيْلًا

فَكَتَرْتُمْ دِيْنَ

۳۰  
۱۱-۸۵-۹

اور وہ وقت یاد کرو جب تم قوموں  
تھے پھر اللہ نے تمہیں بڑھا دیا

عَلَى اللّٰهِ اَوْ كُنَّا

۱۱-۸۹-۹ ۱/۲۱

اللہ (ہی) پر ہم نے بھروسہ کیا۔

رَبَّنَا افْتِنْهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ  
قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ  
الْفَاتِحِينَ -

اے ہمارے پروردگار ہمارے اور  
ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ  
فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہترین  
فیصلہ کرنے والا ہے۔

۳۰/۱۰۲  
۱۲-۹۹-۹  
أَقَامُوا مَكْرَ اللَّهِ ج

کیا (یہ لوگ) اللہ کی خفیہ تدبیروں  
سے بے خوف ہو گئے ہیں۔

۳۲  
۱۳/۱۶  
۱۴-۱۱۶-۹

وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَزِيزٍ

اور بڑا جادو کر دکھایا  
اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر  
صبر کے شکنجے، انڈیل دے۔ اور  
ہماری جان اسلام دہی، پر نکال۔

۳۳  
۱۳/۳۱  
۱۴-۱۲۶-۹

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا  
وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ؕ

اللہ (دہی) کا سہارا رکھو اور صبر کئے رہو۔

۳۴  
۱۵/۶  
۱۵-۱۲۸-۹

إِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا

دموٹیٰ نے، کہا کیا میں اللہ کے سوا  
کسی داؤں کو تمہارا معبود تجویز کروں۔

۳۵  
۱/۹۵  
۱۶-۱۴۰-۹

قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ  
الْهَىٰ -

اور مفسدین کی روش پر مت  
چلنے لگنا۔

۳۶  
۲۱/۸  
۱۶-۱۴۱-۹

وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ؕ

پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ

۳۷  
۱۱/۲  
۱۶-۱۴۳-۹

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ

جَعَلَهُ دَكًّا وَخَنَزِيرًا مَوْسَىٰ

صَبِيحًا

۳۸  
۲۶/۳۲ ۱۸-۱۵۰-۹

بَشَرًا خَلَقْنَا نُونًا مِّنْ

بَعْدِي

فَلَا تَشْرِبْ مِنَ الْآعْدَاءِ

۳۹  
۱۷/۳۱ ۱۹-۱۵۵-۹

أَنْتَ وَلَيْتَنَا فَاعْفِرْ لَنَا

وَارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ

الْعَافِرِينَ ۵

۴۰  
۲۱/۳۳ ۱۹-۱۵۷-۹

وَبَضْعٌ مِّنْهُمْ رَاصِرٌ هُمْ

۴۱  
۱۷/۴۲ ۲۰-۱۵۸-۹

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ

يُمِيتُ ۖ

۴۲  
۱۹/۱۸ ۲۱-۱۴۹-۹

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

۴۳  
۱۷/۴۶-۱/۳۲ ۲۱-۱۴۹-۹

أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

الْحَقَّ

پر اپنی بجلی ڈالی تو (بجلی) نے پہاڑ کو

ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور موسیٰؑ بجلی کے کھکنے سے بچے کر گئے۔

میرے پیچھے بہت بڑی قیامت

کی۔

سو میرے اوپر دشمنوں کو نہ سہوا بیٹے۔

تو ہی ہمارا کارساز ہے ہماری مغفرت

کرم پر رحم کر اور تو ہی بہترین مغفرت

کرنے والا ہے۔

اور ان پر بوجھ اور قیدی جوان پر راب

تک، تمہیں اتارے دیتا ہے۔

سوا اس کے کوئی مبدوء نہیں وہی بنا آتا

اور وہی (ماتا ہے)۔

پھر ان کے بعد ان کے ہاشمین ہوئے

ایسے نالائق (لوگ)۔

کہ اللہ پر کوئی بات نہ گواہیں ہاں

صرف حق کہیں۔

۲۲-۱۴۲-۹  $\frac{۲۲}{۱۱/۲}$ 

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط

اور کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔

۲۲-۱۴۶-۹  $\frac{۲۵}{۱۶/۲۹-۲۳/۱۰}$ 

فَنَسَلَهُ كَمِثْلِ الْكَلْبِ ط

سو اسکی مثال کتے کی سی ہوگی کہ اگر تو اس

اِنْ تَحِيلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ

پر حملہ کرے (جب بھی) ہانپے اُسے

اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ط

چھوڑے (جب بھی) ہانپے۔

۲۲-۱۴۸-۹  $\frac{۲۶}{۲۶/۳-۲۱/۲}$ 

مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ

اور جسے اللہ راہ دکھائے بس وہی راہ

الْمُهْتَدِي ط

پلنے والا ہے۔

۹/۲ وَمَنْ يَضِلْ فَاُولٰٓئِكَ

اور جسے وہ بے راہ کرے سو وہی لوگ

هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ه

نقصان اٹھانے والے ہیں۔

۲۲-۱۴۹-۹  $\frac{۲۷}{۲۲/۱۳}$ 

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ

ان کے دل ہیں (مگر) یہ ان سے سوچتے

بِقٰوِط

سمجھتے نہیں۔

۲۲-۱۴۹-۹  $\frac{۲۸}{۲/۲۸}$ 

وَلٰسُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ

اور ان کی آنکھیں ہیں (مگر) ان سے

بِقٰوِط

دیکھتے نہیں۔

۲۲-۱۴۹-۹  $\frac{۲۹}{۲/۲۸}$ 

وَلٰسُمْ اِذَا نُنَّ لَا يَسْمَعُوْنَ

اور ان کے کان ہیں (مگر) ان سے

بِقٰوِط

سننے نہیں۔

۲۲-۱۴۹-۹  $\frac{۵۰}{۷/۱}$



أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ  
أَصْلُهُ ۖ

۲۲-۱۸۰-۹  $\frac{۵۱}{۱/۳۷}$

یہ لوگ مثل چوپایوں کے ہیں بلکہ یہ ان  
سے بھی بڑھ کر بے راہ ہیں۔

وَاللّٰهِ اِلَّا سَمَاءُ الْحُسْنٰی  
فَادْعُوْهُ بِهَا ۝

۲۲-۱۸۵-۹  $\frac{۵۲}{۱/۴۳}$

اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے (مخصوص)  
نام میں سوا نہیں سے اسے پکارو۔

فَبِآیِّ حَدِيثٍ مُّبَدَّلًا  
يَوْمَ يُنْفَخُ

۲۲-۱۸۹-۹  $\frac{۵۳}{۱/۱۱۰}$

غرض کہ یہ اس (قرآن) کے بعد یہ کس  
بات پر ایمان لائیں گے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۝

۲۲-۱۹۳-۹  $\frac{۵۴}{۲/۳}$

وہ وہی (پروردگار) ہے جس نے تمہیں  
ایک جان واحد سے پیدا کیا۔

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدٰى  
لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ۖ

۲۲-۱۹۹-۹  $\frac{۵۵}{۴/۵}$

اور اگر تم انہیں (اصنام کو) کوئی بات بتانے  
کو پکارو تو تمہاری پیروی نہ کر سکیں۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ  
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ۝

۲۲-۲۰۳-۹  $\frac{۵۶}{۲۹/۳-۱/۸۹-۱/۶۴}$

درگزر اختیار کیجئے اور نیک کام کا حکم  
دیتے رہئے اور جاہلوں سے کنارہ  
کش ہو جایا کیجئے۔

هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ مَّرَاتِبِكُمْ  
وَهُدٰى وَرَحْمَةٌ لِّعَسْوِمٍ

یہ (خود ہیئت کی) دلیلیں میں تمہارے  
پروردگار کی طرف سے اور ہدایت اور

تَوْمِنُونَ ۵

رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔

## انفال

۱-۱-۹- ۱/۸

پس اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپس کی اصلاح کرو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۝

۱-۱-۹- ۲/۲۸

اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

۱-۲-۹- ۳/۸۳

ایمان والے تو بس وہ ہوتے ہیں کہ جب انکے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انکے دل ہم جلتے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ ۝

اور جب انہیں اسکی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ انکا ایمان بڑھادیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر توکل رکھتے ہیں۔

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔

۱-۳-۹- ۴/۱۵۳

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

۱-۳-۹ ۲۶/۳۳

اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ  
حَقًّا ط

یہی لوگ توپے (اور پکے) مومن  
ہیں۔

۱-۸-۹ ۶/۱۹

لِيُبَيِّنَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ  
الْبَاطِلَ ط

تا کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا  
ثابت کر دے۔

۱-۱۰-۹ ۷/۳۷

وَلِيَتَّطِبْنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ط

اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس آطمینان  
ہو جائے۔

۱-۱۰-۹ ۲۶/۱۸

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ ط

وہاں نیک نعت تو بس اللہ ہی کے  
پاس ہے۔

۲-۱۷-۹ ۴/۵

وَمَارَ مَيِّتٍ إِذْ مَرَّ مَيِّتًا  
وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ ط

اور آپ نے (ان پر) خاک کی مٹی  
نہیں پھینکی جب کہ آپ نے وہ پھینکی بلکہ  
اللہ نے پھینکی۔

۳-۲۵-۹ ۲۱/۳

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبُنَّ  
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ ط

اور ڈرتے رہو اس وبال سے جو فتنے  
انہی لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں سے  
ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔

۳-۲۷-۹ ۹/۱۱

اے ایمان والو! خیانت نہ کرو اللہ  
اور اسکے رسول کی اور نہ اپنی امانتوں  
میں خیانت کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا  
اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا  
أَعْيُنَكُمْ۔

۱۲/۳۱ - ۹ - ۲۸ - ۳۰

اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری  
اولاد ایک آزمائش ہیں۔

وَأَعْتَمُوا أَنفُسَكُمْ  
وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ ۗ

۱۳/۲۶/۲۷ - ۹ - ۳۰ - ۴۰

اور وہ (اپنی) تدبیریں کر رہے تھے اور  
اللہ (اپنی) تدبیر کر رہا تھا اور اللہ  
بہترین تدبیر والا ہے۔

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۗ

۱۴/۴ - ۹ - ۳۳ - ۴۰

حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرنے کا کہ  
انہیں عذاب دے اس حال میں کہ  
آپ ان میں موجود ہیں۔ اور نہ اللہ  
ان پر عذاب لانے کا ہے اس حال  
میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ  
وَأَنْتَ فِيهِمْ ۗ وَمَا كَانَ  
اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ  
يَسْتَغْفِرُونَ ۗ

۱۵/۲۱/۳۰ - ۹ - ۳۹ - ۴۰

اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد  
(عقیدہ) باقی نہ رہ جائے اور دین  
سارے کا سارا اللہ ہی کیلئے ہو جائے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ  
فِتْنَةٌ ۗ وَيَكُونَ الدِّينُ  
كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ

۱۶/۱/۱۲۲ - ۹ - ۴۰ - ۵۰

تو جانے رہو کہ تمہارا رفیق اللہ ہی ہے

فَاعْتَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ

بہترین رفیق اور بہترین  
مددگار۔

نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

۱۷  
۲۲/۱۳ ۵-۳۲-۱۰

لیکن دراصل بلا قصد ٹھن گئی، تاکہ اس  
امر کو پورا کر دے جو ہو کر رہنا تھا۔

وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا

كَانَ مَفْعُولًا ؕ

۱۸  
۱۱/۴ ۵-۳۳-۱۰

لیکن اللہ نے (تم کو) بچایا۔

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ

۱۹  
۱۸/۴ ۶-۳۵-۱۰

اے ایمان والو جب تم کسی جماعت  
کے مقابل ہو اور وہ ثابت قدم رہا  
کر اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو  
تاکہ فلاح پاؤ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا

لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَّ

اذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ؕ

۲۰  
۲۸/۱ ۶-۳۶-۱۰

اور اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرتے  
رہو اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔

وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلًا

وَلَا تَنَازَعُوْا

۲۱  
۱۱/۲۹ ۶-۳۶-۱۰

ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا  
اکھڑ جائے گی اور صبر کرتے رہو۔

فَتَقٰتِلُوْا وَتَذٰهَبَ رِجَالُكُمْ

وَاصْبِرُوْا ؕ

بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ؕ

۲۳  
۱۳/۲۲ ۷-۳۹-۱۰

اور جن کے دلوں میں (شک کی)

وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ

مَرَضٌ .

بیماری تھی۔

۲۳  
۳/۱۸ - ۱۰ - ۲۹ - ۷وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى  
اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهََ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ۝اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ سو  
اللہ (بڑا) زبردست ہے (بڑا)  
حکمت والا۔۲۴  
۲۲/۲۳-۱۹/۲ - ۱۰ - ۵۳ - ۷ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ  
مُعَيَّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا  
عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا  
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۝یہ (سب) اس سبب سے ہے کہ اللہ  
کسی نعمت کو جس کا انعام وہ کسی قوم  
پر کر چکا ہو نہیں بدلتا جب تک کہ وہی  
لوگ اسکو تبدیل دیں، جو کچھ انکے پاس ہے۲۵  
۹/۱۱ - ۱۰ - ۵۸ - ۷إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِبِينَ ۝بیشک اللہ خیانت کرنے والوں کو  
دوست نہیں رکھتا۔۲۶  
۴/۱۸ - ۱۰ - ۶۰ - ۸وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ  
مِنْ قُوَّةٍ ۝اور ان سے مقابلہ کیلئے جس قدر بھی تم  
سے ہو سکے سامان درست رکھو۔۲۷  
۴/۵ - ۱۰ - ۶۰ - ۸

لَا تَعْلَمُوهُمْ ۝

کہ تم انہیں نہیں جانتے۔

۲۸  
۷/۹۸ - ۱۰ - ۶۰ - ۸

اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۝

اللہ انہیں جانتا ہے۔

۲۹  
۱۵/۱۱ - ۱۰ - ۶۱ - ۸

وَإِنْ جَدَحُوا لِلسَّلَامِ

اور اگر وہ جھکیں کی طرف تو (آپ کو)

فَاَجْتَنَحْنَا

اختیار ہے کر، آپ بھی اس طرف  
بھٹک جائیں۔۲۹  
۱۰-۶۷-۱۰ ۱/۱۴-۱۰/۸

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الرِّبَاَ الْآخِرَةَ ۗ

تم لوگ دنیا کا مال اسباب چاہتے ہو اور  
اللہ (تمہارے لیے) آخرت کو چاہتا ہے۳۰  
۱۰-۷۲-۱۰ ۲/۱۹وَاِنْ اسْتَنْصَرْتُمْ فِي  
الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُاور اگر وہ تم سے مدد چاہیں تو تم پر جواب  
ہے مدد کرنا۔۳۱  
۱۰-۷۵-۱۰ ۱/۱۵۶وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ  
اللَّهِ ۗاور (ان میں کے) قرابندار ایک دوسرے  
کی میراث کے زیادہ حق دار ہیں کتاب  
اللہ کے نوشتہ میں۔

## تُوبَةُ

۱-۲-۱۰ ۲۲/۸

وَإِنَّ اللَّهَ مُخَيِّرٌ الْكٰفِرِيْنَ

بلکہ اللہ ہی کافروں کا رستہ کرنے  
والا ہے۔۳  
۱۰-۳-۱۰ ۴/۱إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۗ  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۗمیشک اللہ پر مہیزگاروں کو دوست  
کھنابے اور یہ لوگ ہی میں زیادتی کرنے والے

۲-۱۳-۱۰ ۱/۸۰

أَتَخَشَوْنَهُمْ ج

کیا تم ان سے ڈرتے ہو۔

۲-۱۳-۱۰ ۲/۸۰

فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ

اللہ حق ہے اس کا کہ اس سے ڈرو

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اگر تم ایمان والے ہو۔

۲-۱۳-۱۰ ۵/۱۳/۱۲

وَيَشْفِ صُدُورًا قَوِّمٍ

اور مسلمان لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈا

مُؤْمِنِينَ ۝

کے گا۔

۳-۱۸-۱۰ ۶/۲۶/۱۳

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ

اللہ کی مسجدوں کا آباد کرنا تو ان لوگوں

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

کا کام ہے جو ایمان رکھتے ہوں

الْآخِرِ۔

اللہ اور روز آخرت پر۔

۳-۱۸-۱۲ ۷/۱۲/۱۵/۱۳

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى

اور پابندی کرتے ہوں نماز کی اور

الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ

زکوٰۃ دیتے رہتے ہوں اور بجز اللہ

إِلَّا اللَّهَ قَف

کے کسی سے نہ ڈریں۔

۳-۱۸-۱۰ ۸/۲۹/۳

فَعَسَىٰ أَوْلِيٰكَ أَنْ تَكُونُوا

پس ایسے لوگ امید ہے کہ راہ یاب

مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

ہو جائیں۔

۴-۲۸-۱۰ ۹/۲۶/۱۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا

اے ایمان والو! مشرکین تو بڑے

الشُّرِكُوتُ نَجَسٌ

ناپاک ہیں۔



۲۴/۱۰ - ۱۰ - ۳۱ - ۵

اتَّخَذُوا أَحِبَّاءَهُمْ وَ  
رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ  
دُونِ اللَّهِ -

انہوں نے اللہ کے ہوتے ہوئے  
اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو بھی اپنا  
پروردگار بنا رکھا ہے۔

۱۱/۹۵ - ۱۰ - ۳۱ - ۵

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ  
عَمَّا يُشْرِكُونَ -

کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ اس سے پاک  
ہے جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں

۱۲/۲۶ - ۱۰ - ۳۲ - ۵

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ  
اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ -

چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ  
سے بجھادیں۔

۳/۵ - ۱۰ - ۳۰ - ۵

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ  
مَعَنَا -

کہ غم نہ کرو بیشک اللہ ہم لوگوں کے  
ساتھ ہے۔

۱۳/۵ - ۱۰ - ۳۰ - ۶

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ  
عَلَيْهِ -

سوائے اپنی تسلی ان (رسول)  
کے اوپر نازل کی۔

۱۵/۵ - ۱۰ - ۳۰ - ۶

وَأَيَّدَاهُ بِجَنُودٍ  
لَّمْ تَرَوْهَا -

اور ان کی تائید ایسے لشکروں سے  
کی جنہیں تم لوگوں نے نہ دیکھا۔

۱۶/۲۳ - ۱۰ - ۳۰ - ۶

وَجَعَلَ كَلِمَةَ  
التَّيْبَةِ

اور اللہ نے کافروں کی بات نیچی

كُفِّرُوا وَالسُّفْلَى ط

کردی۔

۶-۳۰-۱۰ ۱۶/۱۹

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ط

اور اللہ کی بات اونچی رہی۔

۷-۲۴-۱۰ ۱۸/۶

وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ ط

اور تمہارے درمیان انکے جاسوس  
(اب بھی) موجود ہیں۔

۷-۵۳-۱۰ ۱۹/۳۴

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ

اور یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر بارے  
جی کے ساتھ۔

كُسَالَى .

۷-۵۳-۱۰ ۲۰/۱۸

وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ

اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے  
ساتھ۔

كِرْهِيْنَ ۝

۸-۶۱-۱۰ ۲۱/۵۸

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ

اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے  
ہیں انکے لیے عذاب دردناک ہے۔

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

۸-۶۲-۱۰ ۲۲/۴۹

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ

حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ  
مستحق ہیں کہ خوش اسکو کر لیں اگر واقعی  
یہ لوگ ایمان والے ہیں۔

يَرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝

۸-۶۵-۱۰ ۲۳/۳۳

إِنَّا لِلَّهِ وَأَيْنَا لَهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ

آپ کہتے تھے کہ اچھا تو تم استہزا کر رہے

تَسْتَهْزِهُنَّ ۝

ہوا اللہ اور اسکی آیتوں اور اس کے  
رسول کے ساتھ۔

۲۳  
۱/۲۴ - ۱۰ - ۲۴ - ۹

تَسْمُوا اللَّهَ فَنَسِيْبُهُمْ ط

انہوں نے اللہ کو بھلا دیا سو اس  
نے انہیں بھلا دیا۔

۲۵

۱/۱۲۲ - ۱/۱۳۴ - ۱۳/۱۵ - ۱۳/۲۱ - ۲۸/۱

۱۰ - ۴۱ - ۹

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

اور ایمان والے اور ایمان والیاں

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م

ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں

يَا مُرُونَ بِالتَّعْرُوفِ وَ

نیک باتوں کا آپس میں حکم دیتے ہیں

يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

اور بڑی باتوں سے روکتے رہتے ہیں

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور

الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَ

زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ اور اللہ اور

رَسُولَهُ ۝ اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُم

اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں

اللَّهُ ۝ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر ضرور رحمت

حَكِيمٌ ۝

کرے گا۔ بیشک اللہ بڑا اختیار والا

بڑا حکمت والا ہے۔

۲۶  
۱/۸ - ۱۰ - ۴۲ - ۹

وَمَسْكِنٍ حَيِّبًا فِي جَنَّتِ

اور (وعدہ کر رکھا ہے) پاکیزہ مکانوں

عَدَانَ ط

کا ہمیشگی کے باغوں میں۔

۲۷  
۱/۴۹ - ۱۰ - ۴۲ - ۹

وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ الْبَرِّ ۝

اور اللہ کی رضامندی سے (نعمتوں سے) بڑھ کر

۹-۲۲-۱۰  $\frac{۷۸}{۲۱/۱۵}$ 

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

بڑی کامیابی یہی ہے۔

۱۰-۴۴-۱۰  $\frac{۲۹}{۲۳/۲}$ 

وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ

اور ان کا (روئے) زمین پر نہ کوئی یار ہے

وَرِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

اور نہ مددگار۔

۱۰-۴۵-۱۰  $\frac{۳۰}{۱/۱۶}$ 

لَئِنْ أَتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ

کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں (مال)

لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ

عطا کرے تو ہم خوب (اُس میں سے)

الصَّالِحِينَ ۝

تصدقی کریں گے اور خوب کام کیا کریں گے۔

۱۰-۴۶-۱۰  $\frac{۳۱}{۱/۱۸}$ 

فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

پھر جب اُنکو اپنے فضل سے

بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ

(مال) دے دیا تو لگے وہ اس میں نخل کرنے

مُعْرِضُونَ ۝

اور روگردانی کرنے اور منہ پھیرے ہوئے

تو وہ تھے ہی۔

۱۱-۸۱-۱۰  $\frac{۳۲}{۲۴/۸}$ 

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۝

اُپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی گرمی (اُس سے بھی)

لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

زائد تیز ہے کاش وہ سمجھتے ہوتے۔

۱۱-۸۲-۱۰  $\frac{۳۳}{۲۳/۲}$ 

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا

سو تھوڑے دن ہنس لیں اور پھر

كَثِيرًا ۝

(آخرت میں) بہت دن روتے رہیں۔

۱۱-۸۲-۱۰  $\frac{۳۴}{۲۳/۴}$

جَزَاءً أَيْمَانُكَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ  
يَكْسِبُونَ ۝

۱۱-۹۵-۱۰  $\frac{۳۵}{۴/۵}$

وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُكَ وَأَوْلَادُكَ  
أُولَادُهُمْ ۝

۱۲-۹۲-۱۰  $\frac{۳۶}{۲۶/۳۴}$

تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ  
الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا  
يُنْفِقُونَ ۝

۱۲-۹۲-۱۱  $\frac{۳۷}{۶/۱۴}$

فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ۝

۱۲-۹۴-۱۱  $\frac{۳۸}{۲/۱۳}$

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ  
الْفَاسِقِينَ ۝

۱۲-۹۸-۱۱  $\frac{۳۹}{۱/۱۸}$

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّبِعُكَ  
مَا يَنْفِقُ مَفْرَمًا

۱۲-۹۸-۱۱  $\frac{۴۰}{۳/۵}$

ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کرتے  
رہتے ہیں۔

اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو  
توجیب میں نڈال رہے۔

تو وہ واپس جاتے ہیں اس حال میں کہ  
انکی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں  
اس غم میں کہ انہیں کچھ پیسہ نہیں جو وہ  
خرچ کریں۔

تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے  
رہے تھے۔

تو اللہ (تو) نافرمان لوگوں سے راضی  
نہیں ہوتا۔

اور وہ بیابانوں میں کوئی ایسا بھی ہے  
جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اُسے

جرمانہ بھگتا ہے۔

وَيَتَزَبَّصُ بِكُمْ الذَّوَابُ  
عَلَيْهِمْ ذَايِرَةٌ السَّوَاءُ ط

اور تمہارے لیے گردشوں کا منظر رہتا  
ہے۔ بڑی گردش خود انہیں (منافقین)  
کیلئے ہے۔

۱۲-۹۹-۱۱  $\frac{۳۰}{۱/۸۶}$

سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي  
رَحْمَتِهِ ط

ضرور انکو اللہ اپنی رحمت میں داخل  
کرے گا۔

$\frac{۳۱}{۲۳/۳-۲۱/۱۵-۱/۸۵-۲۳/۳}$

۱۳-۱۰۰-۱۱

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا  
عَنْهُ

اللہ ان (سب) سے راضی ہوا اور وہ  
(سب) اُس سے راضی ہوئے۔

۱۳-۱۰۲-۱۱  $\frac{۳۲}{۱/۶۰}$

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ  
عَلَيْهِمْ ط

تو قہ ہے کہ اللہ ان پر توبہ  
کرے۔

۱۳-۱۰۳-۱۱  $\frac{۳۳}{۳/۵}$

إِنْ صَلَوَتِكَ سَكُنُ  
لَهُمْ ط

بلاشبہ آپ کی دُعا اُنکے حق میں (باش)  
تسکین ہے۔

۱۳-۱۰۹-۱۱  $\frac{۳۴}{۱/۸}$

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى  
تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ  
خَيْرٌ -

سو آیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت  
کی بنیاد اللہ کے تقویٰ اور رضامندی  
پر رکھی وہ بہتر ہے۔

۱۴-۱۱۱-۱۱  $\frac{۳۵}{۶/۸}$

بلاشبہ اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کی جانوں اور انکے مالوں کو اس کے عوض میں کہ انہیں جنت ملے گی۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جو (کبھی) مار ڈالتے ہیں اور (کبھی) وہ مار ڈالے جاتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُفْتَاتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ قَف

۲۶  
۱/۴۰ - ۱۱ - ۱۳

اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہدہ کا پورا کرنے والا ہے۔

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ -

۲۶  
۹/۳۷ - ۱۱ - ۱۳

سو تم خوشی مناؤ اپنی بیع پر جس کا تم نے سودا کیا ہے۔

فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ؕ

۲۸  
۱/۶۰ - ۱۱ - ۱۳

بیشک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے بڑا رحمت والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ؕ

۲۹  
۱۵/۲ - ۱۱ - ۱۱۹

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہا کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ؕ

۵۰  
۲۶/۱۲ - ۱۱ - ۱۲۰

بیشک اللہ نیکو کاروں کا ابرضائع

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

الْمُحْسِنِينَ ۝

نہیں کرتا۔

۵۱  
۶/۶ - ۱۱ - ۱۲۱ - ۱۵لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝تاکہ اللہ انہیں انکے کاموں کا اچھے سے  
اچھا بدلہ دے۔۵۲  
۲۶/۹ - ۱۱ - ۱۲۳ - ۱۶وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ ۝اور جاننے لگے کہ اللہ تو پرہیزگاروں کے  
ساتھ ہے۔۵۲  
۱/۱۶۲ - ۱۱ - ۱۳۲ - ۱۶فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَوَزَّادَتْهُمْ  
إِيمَانًا وَهُمْ يُسْتَبَشِرُونَ ۝سو جو لوگ ایمان لے لے ہیں ان کے  
انکے ایمان میں ترقی دی اور وہ خوش  
ہو رہے ہیں۔۵۴  
۴/۵ - ۱۱ - ۱۲۸ - ۱۶لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ  
أَنْفُسِكُمْ ۝بیشک تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے  
ہیں تمہاری ہی جنس میں سے۵۵  
۴/۵ - ۱۱ - ۱۲۸ - ۱۶

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ۝

جو سوچیز تمہیں مہضرت پہنچاتی ہے انہیں  
بہت گراں گزرتی ہے۔۵۶  
۴/۵ - ۱۱ - ۱۲۸ - ۱۶حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ  
رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝تمہاری (بھلائی) کے حرص میں ہیں،  
ایمان والوں کے حق میں تو بڑے ہی  
شفیق ہیں، مہربان ہیں۔۵۷  
۴/۵ - ۱۱ - ۱۲۹ - ۱۶

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ حَسْبِيَ

پھر اگر (وہ لوگ) روگردانی کرتے ہیں



تو آپ کہتے تھے کہ میرے لیے توفیق کافی ہے، اسکے سوا کوئی معبود نہیں۔

اللَّهُ قَرِيبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط

۵۸  
۱۱/۴ - ۱۱/۳۳

اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ؕ

## یونس

یہ پڑھتے کتاب کی آیتیں ہیں۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝

دہر، کام کی تدبیر (وہی) کرتا ہے۔

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ط

تا کہ تم برسوں کا شمار اور حساب جان لیا کرو۔

لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ط

انکا پروردگار انہیں پہنچا دے گا انکی منزل تک (بوجہ انکے ایمان کے۔

يَهْدِيهِمْ سَبِيلَهُمْ وَيَايُمَّا زَيْتُونَةٍ ۝

اسی میں انکا قول ہوگا، پاک ہے تو اے اللہ اس میں ان کی (باہمی) دعا سلام ہوگی۔

دَعَاؤُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝

۱-۱۲-۱۱ ۶/۱۵۱

اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے  
تو ہم کو پکارتا ہے لیٹے بھی اور بیٹھے بھی  
اور کھڑے بھی۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ<sup>۱</sup>  
دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْقَاعًا<sup>۲</sup>  
أَوْ قَائِمًا<sup>۳</sup>

۲-۱۶-۱۱ ۴/۳۵

پھر میں تو تمہارے درمیان اس کے قبل  
بھی اتنے حصہ عمر تک رہ چکا ہوں کیا  
تم عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔

فَقَدْ لَيَسَّتْ<sup>۱</sup> فِيكُمْ<sup>۲</sup> عُمْرًا<sup>۳</sup>  
مِنْ قَبْلِهِ<sup>۴</sup> أَفَلَا تَعْقِلُونَ<sup>۵</sup>

۲-۱۴-۱۱ ۲۶/۱۰

یقیناً مجرموں کو نسلخ نہیں ہوتی۔

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ<sup>۱</sup> الْمُجْرِمُونَ<sup>۲</sup>

۲-۱۸-۱۱ ۹/۹۳

وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے  
شکر سے۔

سُبْحٰنَهُ<sup>۱</sup> وَتَعَالَى<sup>۲</sup> عَرْشُهُ<sup>۳</sup>  
يُشْرِكُونَ<sup>۴</sup>

۳-۲۲-۱۱ ۱۳/۱۵

وہ (وہی) اللہ ہے جو تم کو خشکی اور  
سمندر میں لیے پھرتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ<sup>۱</sup>  
وَالْبَحْرِ<sup>۲</sup>

۳-۲۲-۱۱ ۱/۶۵

(تو اس وقت) اللہ کے ساتھ اعتقاد  
کو (بالکل) خالص کر کے پکارتے ہیں  
کہ اگر تو نے ہمیں اس (مصیبت) سے  
نجات دلا دی تو یقیناً ہم شکر گزاروں میں ہونگے۔

دَعُوا اللَّهَ<sup>۱</sup> مُخْلِصِينَ لَهُ<sup>۲</sup>  
الْدِينَ<sup>۳</sup> هَٰؤُلَاءِ<sup>۴</sup> أَنْجَيْنَا<sup>۵</sup>  
مِنْ هَٰذِهِ<sup>۶</sup> لَنَكُونَنَّ مِنَ<sup>۷</sup>  
الشَّاكِرِينَ<sup>۸</sup>

۱۲  
۱۰/۱ ۳-۲۵-۱۱

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف  
بلاتا ہے۔

وَاللَّهُ يَدْعُرَا إِلَى دَارِ  
السَّلَامِ ۝

۱۳  
۱۵/۱۱ ۳-۲۵-۱۱

اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر  
چلا دیتا ہے۔

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى  
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۱۴  
۱۱/۱۱ ۳-۲۶-۱۱

جو لوگ نیکی کرتے رہے ان کے لیے  
بھلائی ہے اور اسکے علاوہ بھی۔

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ  
وَزِيَادَةٌ ۝

۱۵  
۱۱/۲۸ ۴-۳۱-۱۱

وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔

فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۝

آپ کہتے تھے کہ اللہ ہی حق کا راستہ  
بتلاتا ہے۔

۱۶  
۲۵/۳ ۴-۳۵-۱۱

قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۝

سو دیکھتے کیسا بڑا (نظاموں کا)  
انجام ہوا۔

۱۷  
۱۸/۱ ۴-۳۹-۱۱

فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الظَّالِمِينَ ۝

اور بہر وقت کیلئے ایک پیام رسال ہوا۔

۱۸  
۱۱/۳۶ ۵-۳۷-۱۱

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۝

ہر امت کیلئے ایک معین وقت ہے۔

۱۹  
۱۱/۳۶ ۵-۱۹-۱۱

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۝

۲۰  
۲۶/۳۰ ۵-۴۱-۱۱

جب اُن پر وہ وقت معین آجاتا ہے تو وہ لوگ نہ ایک گھڑی بھیچھہ ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝

۲۱  
۱/۱۶ ۱۱-۵۶-۶

وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

۲۲  
۱/۱۶ ۱۱-۵۸-۶

آپ کہتے تھے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، ہاں اس سے چاہیے کہ (لوگ) خوش ہوں۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۝

۲۳  
۱/۱۶ ۱۱-۶۰-۶

بیشک اللہ لوگوں پر بڑا فضل رکھنے والا ہے۔ لیکن انہی میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝

۲۴  
۲۳/۶ ۱۱-۶۱-۶

اور آپ کے پروردگار سے ذرہ برابر (بھی کوئی چیز) غائب نہیں زمین میں نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی۔ مگر یہ کہ سب کتاب میں ہیں۔

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

۲۵  
۱/۱۳ ۱۱-۶۲-۶

سنو اللہ کے دوستوں پر قطعاً

الْإِنِّ أَوْلِيََاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ

نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین  
ہوں گے۔

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

۲۶  
۱۱/۱۳۰ - ۶-۶۳-۱۱

انکے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں  
بھی اور آخرت میں بھی۔

لَمْ يَكُنِ الْبَشَرِ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

۲۷  
۱۳/۱ - ۸-۷۷-۱۱

در آنجا یک بار بادو گر (کبھی) فلاح نہیں پاتے۔

وَلَا يُفْلِحُ الشَّجِرُونَ

۲۸  
۲۱/۸ - ۸-۸۴-۱۱

یقیناً اللہ فسادوں کا کام بننے نہیں  
دیتا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصَلِّحُ عَمَلِ  
الْمُنْكَرِينَ

۲۹  
۸/۱۹ - ۸-۸۲-۱۱

اور اللہ حق کو سچ کر دکھاتا ہے اپنے  
وعدوں کے موافق خواہ مجرموں کو  
(کیسا ہی) ناگوار گزرتے۔

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ  
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

۳۰  
۱/۲۱ - ۹-۸۵-۱۱

اے ہمارے پروردگار ہم کو تیرے مشق  
زبنا ظالم لوگوں کا۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ  
الظَّالِمِينَ

۳۱  
۱/۲۱ - ۹-۸۶-۱۱

اور ہم کو اپنی رحمت سے نجات دے  
کافر لوگوں سے۔

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ  
الكَافِرِينَ

۳۲  
۱/۲۱ - ۹-۸۷-۱۱

وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً.

اور تم لوگ اپنے گھروں ہی کو نماز گاہ  
قرار دے لو۔

۳۳  
۲۶/۳۴ ۹ - ۸۶ - ۱۱

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ  
الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور نماز کی پابندی رکھو اور آپ ایمان  
والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔

۳۴  
۶/۸ ۱۰ - ۹۳ - ۱۱

مُبْتَوًا صِدْقٍ

بہت اچھا ٹھکانا۔

۳۵  
۲۶/۳۴ ۱۰ - ۱۰۳ - ۱۱

لَشِمَّةٌ نُّذِجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ  
آمَنُوا كَذِبًا ۝

پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ان لوگوں کو جو  
ایمان والے تھے بچا لیتے تھے اسی طرح۔

۳۱  
۱۰ - ۱۰۳ - ۱۱

حَقًّا عَيْنَانَا نُّذِجِ  
الْمُؤْمِنِينَ ۝

ہم (سب) مومنوں کو نجات دیا کرتے  
ہیں (یہ) ہمارے ذمہ ہے۔

۳۶  
۱۱/۱۱ ۱۱ - ۱۰۵ - ۱۱

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ  
حَنِيفًا ۝

اور یہ کہا پنا رخ دین کی طرف خالصتہً  
کر لینا۔

۳۷  
۲۰/۷ ۱۱ - ۱۰۲ - ۱۱

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا  
لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۝

اور اللہ کے علاوہ (کسی اور) کو نہ پکارنا  
جو تجھے نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان  
پہنچا سکے۔

۳۸  
۲۹/۳ ۱۱ - ۱۰۸ - ۱۱

سودا اب جو کوئی راہ ہدایت پر آجائے گا  
سودہ اپنے ہی ایسے ہدایت پائے گا۔

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي  
لِنَفْسِهِ ۗ

۱۱-۱۰۸-۱۱ ۳۵  
۱۶/۳

اور جو کوئی بھٹکا رہے گا اس کے بھٹکنے  
کا رد ہال بھی اسی پر رہے گا۔

وَمَنْ ضَلَّ فَاتِّمَّ مَا يَحْتَدِي  
عَلَيْهِ ۗ

## ۱۱ ہود

اور ایسے مضمون یہی ہے، کہ تم اپنے پروردگار  
سے مغفرت چاہو، پھر اس کی طرف رجوع  
کیے، وہ تمہیں خوشنمیشی دے گا  
ایک وقت تم کو تک، اور بہر زیادہ عمل  
کرنے کو اس کا زیادہ اجر دے گا۔

وَأَن اسْتَغْفِرُوا لَكُمْ  
شُمَّا تَتُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ  
مَنَاقِحَ أَحْسَنَ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي  
فَضْلٍ فَضْلَهُ ۗ

۱۱-۱۰۹-۱۱ ۳۶  
۱۶/۳

بیشک وہ انکے، دلوں کے اندر انکی  
باتوں سے خوب واقف ہے۔

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ

۱۱-۱۱۰-۱۱ ۳۷  
۱۶/۳

اور کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں  
کہ اللہ کے ذمہ اس کا رزق

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ  
إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا

۱۱-۱۱۱-۱۱ ۳۸  
۱۶/۳

۱۱-۱۱۲-۱۱ ۳۹  
۱۶/۳

بیشک بڑا اترانے والا ہے بڑا شکنی سے بھرانے والا ہے

إِنَّهُ لَنَزِيحٌ فَخُورٌ ۝

۲۶/۱۵ ۱۲ - ۱۴ - ۲۰

تو اب بھی مسلمان ہوتے ہو۔

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

۲۶/۲۳ ۱۲ - ۱۸ - ۲۰

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

۲۶/۳۵ ۱۲ - ۲۲ - ۲۰

دونوں فریقوں کی حالت ایسی ہے ایک اندھا اور دہرا اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا (یہ) دونوں حالت میں برابر ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۝ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

(چاہیے) کہ تم پرستش نہ کرو (کسی کی) بجز اللہ کے۔

۲۶/۶۵ ۱۲ - ۲۶ - ۳۰

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۝

اے میری قوم والو! میں تم سے اس (تبلیغ) پر کچھ مال تو نہیں مانگتا میرا معاوضہ تو بس اللہ کے ذمہ ہے۔

۲۶/۲۸ ۱۲ - ۲۹ - ۳۰

وَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۝ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۝

اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا۔ بیشک میرا پروردگار

۲۶/۹۱ ۱۲ - ۴۱ - ۴۰

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِمًا ۝ وَ مَرْسَهَا ۝ إِنْ مَرَّيْ لَغَفُورًا ۝



رَّحِيمٌ ۝

بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحمت والا ہے۔

۱۱  
۲۴/۲۸ ۵-۳۶-۱۲إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ  
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۝یہ تمہارے گھر والوں ہی میں سے نہیں یہ  
ایک تباہ کار شخص ہے۔۱۲  
۲۲/۹-۱۰، ۵/۲ ۵-۳۶-۱۲فَاصْبِرْ ۝ إِنَّ الْعَاقِبَةَ  
لِلْمُتَّقِينَ ۝سوصبر کیجئے یقیناً نیک انجامی پر تیرا کاروبار  
ہی کیلئے ہے۔۱۳  
۱۹/۱۰ ۵-۵۱-۱۲يَقَوْمٍ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ  
أَجْرًا ۝ إِنِّي أَجْرِي إِلَّا عَلَى  
الَّذِي فَطَرَنِي ۝اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر  
کوچہ معاد منہ نہیں مانگتا میرا معاد منہ تو بس  
اسی کے ذمبے جس نے مجھے پیدا کیا۔۱۴  
۵-۵۲-۱۲وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُكُمْ وَأُزِّنُكُمْ  
ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ بِرِيسَالِ  
السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا  
وَيَزِدُّكُمْ قُوَّةً إِلَى  
قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا  
مُجْرِمِينَ ۝اے میری قوم والو اپنے پروردگار سے  
اپنے گناہ معاف کرنا پھر اس کی طرف  
متوجہ رہو وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا  
اور تم کو دوسرا قوت دیکر تمہاری قوت  
میں ترقی کرے گا۔ اور مجسم ہو کر  
روگردانی مت کرتے رہو۔۱۵  
۴/۱۸ ۵-۵۷-۱۲إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَإِنِّي  
وَسَّيْتُكُمْ ۝میں نے توفیق پر بھروسہ کر رکھا ہے (جو)  
میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔

۱۶  
۱۷۴ ۱۲-۲۱-۶فَاسْتَنْغِضْهُ وَلَا تَتُوبُوا  
إِلَيْهِ طسو تم اسی سے گناہ معاف کرو اور اسی  
کی طرف توجہ نہ کرو۔۱۷  
۱۷۸-۱/۱۰۰ ۱۲-۶۵-۶

ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرِ مَكْذُوبٍ ۝

یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں

۱۸  
۱۷۹ ۱۲-۷۲-۷قَالَتْ يَوَيْلَتِي ۙ أَلِدُ  
وَأَنَا عَجُوزٌ ۖ وَهَذَا بَعْلِي  
شَيْخًا طبولیں ہائے خاک پڑے کیا (اب) میں  
بچہ جنونگی درانچا ایک میں بوڑھی ہو چکی اور  
یہ میرے میاں دہی بالکل بوڑھے۔۱۹  
۱۸۴ ۱۲-۷۳-۷رَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَيْكُمْ  
أَهْلَ الْبَيْتِ طاے خاندان والو تم پر تو اللہ کی خاص رحمت  
اور اسکی برکتیں (نازل ہوتی رہتی) ہیں۔۲۰  
۱۸۷ ۱۲-۷۵-۷إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ  
مُنِيبٌ ۝بیشک ابراہیم بڑے حلیم بڑے دردمند  
بڑے نرم دل تھے۔۲۱  
۱۸۸ ۱۲-۷۷-۷

هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝

یہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔

۲۲  
۱۸۹ ۱۲-۷۸-۷أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ  
رَّشِيدٌ ۝کیا تم میں کوئی بھی بہرا آدمی  
نہیں۔۲۳  
۱۹۰ ۱۲-۷۹-۷

کاشس میرا تم پر پھیر زور و باؤ ہوتا یا میں  
کسی مضبوط پائیر کی پناہ لیتا۔

لَوَاتِلِيَ بِسُدِّ قُوَّةٍ أَوْ أُوِيَّ  
إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝

۲۳/۱۲ - ۸۱ - ۷

ان (پر خذاب) کے وعدہ کا وقت صبح  
کا ہے اور جمع میں اب دیر ہی کیا ہے۔

إِنَّ مَوْعِدَ هَذَا الصُّبْحِ أَيْسَرُ  
الطَّيِّبِ بِغَيْرِ بَيْتٍ ۝

۲۵/۲۱ - ۸۵ - ۸

ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو۔  
اور لوگوں کا انکی چیزوں میں نقصان  
مت کیا کرو۔

أَوْفُوا الْبَيْئَاتِ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ  
أَشْيَاءَهُمْ ۝

۲۶/۱۱ - ۸۸ - ۸

اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے ایک  
عمدہ دولت دی ہے

وَدَّرْنَا قَنِي عِمْدَةً رِزْقًا حَسَنًا ۝

۲۷/۱۲ - ۸۸ - ۸

میں تو بس اصلاح ہی پاتا ہوں بہا  
مک میں کرسکوں اور مجھے جو کچھ تو فی  
ہوتی ہے ات کی طرف سے۔

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ  
مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي  
إِلَّا بِاللَّهِ ۝

۲۸/۱۸ - ۸۸ - ۸

اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی  
طرف رجوع کرتا ہوں۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ  
أُنِيبُ ۝

۲۹/۱۲ - ۹ - ۸

اور اپنے پروردگار سے اپنے گناہ معاف  
کراؤ پھر اسی کی طرف توجہ کرو بیشک

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا  
إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ

وَوَدُّدٌ ۵

میرا پروردگار بڑا رحمت والا ہے، بڑا  
محبت والا ہے۔

۳۱  
۱۰/۶ ۹-۴۸-۱۲

وَيَبْسُ الْيَوْمِ الْمُؤَدُّ ۵

اور بڑی ہے وہ جگہ اترنے کی جہاں  
یہ آتا رہے جائیں گے۔

۳۱  
۱۴/۱۸ ۹-۱۰۳-۱۲

ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ

وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں دکل انسان  
جمع کئے جائیں گے۔ اور وہ دن ہے  
حاضری کا۔

النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ

مَشْهُودٌ ۵

۳۲  
۲/۴۳ ۹-۱۰۶-۱۲

إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ

ہاں بجز اس کے کہ آپ کا پروردگار چاہے  
بیشک آپ کا پروردگار جو چاہے  
پورے طور پر کر سکتا ہے

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۵

۳۳  
۱۹-۱۱-۱/۴۳ ۹-۱۰۸-۲

عَطَاءٌ غَيْرِ مَجْدُودٍ

(یہ) عطیہ غیر منقطع ہے۔

۳۴  
۲/۵ ۱۰-۱۱۲-۱۲

فَمَا اسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتُ ۵

تو آپ مستقیم رہے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے

۳۵  
۲/۵ ۲۰-۱۱۳-۱۲

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ

اور آپ نماز کی پابندی رکھیے دن  
کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں  
میں بیشک نیکیاں مٹا دیتی بدیوں کو  
یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ملنے

وَنُفُلًا مِّنَ اللَّيْلِ ۵ إِنَّ

الْحَسَنَاتِ يَذْهَبُنَّ

السَّيِّئَاتِ وَذَلِكَ ذِكْرِي

لِلَّذَاكِرِينَ ۝

والوں کے لیے۔

۳۶  
۲۶/۱۴ - ۱۲ - ۱۱۵ - ۱۰

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ

اور صبر کرتے رہیے۔ بیشک اللہ نیک  
کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

۳۷  
۱/۸۶ - ۱۲ - ۱۱۹ - ۱۰

إِلَّا مَنْ رَجَعُ رَبَّكَ ۝

بجز اسکے جس پر آپ کے پروردگار کی رحمت ہو۔

۳۸  
۲۶/۳۳ - ۲۶/۲۰ - ۱۲ - ۱۲۰ - ۱۰

وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ

(ان میں نصیحت اور یاد دہانی اہل ایمان

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

کے لیے ہے۔

۳۹  
۱/۳۸ - ۳/۱۸ - ۱۲ - ۱۲۳ - ۱۰

وَبِهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَ

اور اللہ ہی کے لیے میں ہمیں جوئی

الْأَرْضِ وَاللَّيْه يُرْجَعُ الْأُمُورُ

چیزیں آسمانوں اور زمین کی اور سارے

كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

امرائی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ

عَلَيْهِ ۝

اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ

کیجئے۔

۴۰  
۱/۱۱۱ - ۱۲/۶ - ۱۲ - ۱۲۳ - ۱۰

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا

اور آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں

تَعْمَلُونَ ۝

جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو۔

۱۲۷  
یوسف۱  
۲۲/۵ - ۱۲ - ۲ - ۱

بیشک! ہم نے تمہارے قرآن فصیح تا کہ تم  
(اسے) سمجھو۔

ورنہ وہ تمہاری (ایذا) کے لیے کوئی  
چال چل کر رہیں گے۔

دراستحایکہ ہم تو ان کے بڑے خیر خواہ  
ہیں۔

اور ہم انکے محافظ تو ہیں ہی۔

اور تم اس کی طرف سے بے خبر رہو۔  
کہ تم (ایک روز) ان لوگوں کو ان کی یہ  
بات جتلا دو گے اور (اس وقت) وہ  
جلنتے بھی نہ ہوں گے۔

اور آپ تو ہمارا یقین کریں گے نہیں گو  
ہم (کیسے ہی) سچے ہوں۔

(اس پر یعقوب) بولے ہاں (یہ کہو کہ) تم  
نے اپنے دل سے ایک بات بنالی ہے۔

سو صبر (ہی) اچھا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا  
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۲۳/۱۹ - ۱۲ - ۵ - ۱

فِي كَيْدٍ وَاللَّكِّ كَيْدًا ۝

۲۴/۱۴ - ۱۲ - ۱۱ - ۲

وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ۝

۲۸/۱ - ۱۲ - ۱۲ - ۲

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

۳۸/۲ - ۱۲ - ۱۳ - ۲

وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝

۳۳/۶ - ۱۲ - ۱۵ - ۲

لَعَنَّا عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ  
وَهُمَا لَا يَشْعُرُونَ ۝

۲۸/۲ - ۱۲ - ۱۴ - ۲

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَكَوْ  
كُنَّا صَادِقِينَ ۝

۲۸/۳ - ۱۲ - ۱۸ - ۲

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ  
أَمْرًا ۝

۲۸/۶ - ۱۲ - ۱۸ - ۲

فَصَبِّرْ بِرَجْمِيلٍ ۝

۱۰  
۲-۱۸-۱۲-۱۷/۶۱وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
تَصِفُونَ ۝اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ اس پر اللہ  
ہی مدد کرے۔۱۱  
۳-۲۱-۱۲-۱/۱۱۱

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۝

اور اللہ اپنے (ہر کام پر غالب ہے۔

۱۲  
۳-۲۱-۱۲-۱/۱۵۱وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ ۝لیکن اکثر انسان (اننا بھی نہیں  
جانتے ہیں۔۱۳  
۳-۲۲-۱۲-۲۳/۱۱وَلَمَّا بَدَخَ أَنَّ ذَلِكَ آتِيهِمْ  
حُكْمٌ وَعِلْمٌ ۝اور جب وہ اپنی غلطی کو پہنچے ہم نے انہیں  
حکومت اور علم عطا فرمایا۔۱۴  
۳-۲۸-۱۲-۲۳/۱۹

إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمَةً ۝

بیشک تم عورتوں کا چرتر غضب کا ہوتا ہے

۱۵  
۴-۳۰-۱۲-۸/۲

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۝

اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی۔

۱۶  
۴-۳۱-۱۲-۲۶/۱۴

وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا ۝

اور انکے واسطے مسندیں لگا دیں۔

۱۷  
۵-۳۶-۱۲-۲/۱

نَبَاتًا بَدِيدًا ۝

آپ ہم کو اس کی تعبیر بتائیے۔

۱۸  
۵-۳۸-۱۲-۱/۶۳

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ

ہم کو کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ کے ساتھ

ہم کسی شے کو بھی شریک کریں۔

بِإِثْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ط

اسی نے حکم دیا ہے کہ بجز اسکے کسی کی پریش  
نہ کرو یہی دین مستقیم ہے۔

۱۹  
۱۲-۲۰-۵  
أَمْ أَرَأَىٰ تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِي ط  
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ -

اس خواب کا حکم مجھے بتاؤ۔

۲۰  
۱۲-۲۳-۶  
أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ

حاشا! بدہم کو تو ان میں کوئی بھی بات بولی  
کی نہ معلوم ہوئی۔

۲۱  
۱۲-۵۱-۵  
حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ  
مِنْ سُوءٍ ط

اور آخرت کا اجر کہیں بڑھ کر ہے ان  
لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور تقویٰ  
اختیار کئے رہتے ہیں۔

۲۲  
۱۳-۵۴-۷  
وَلَا جُرْأَلِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ  
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ع

اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے بھی بھروسہ  
رکھنے والوں کو۔

۲۳  
۱۳-۶۷-۸  
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ  
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

سو جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اس  
پر (اب) نہ کرو صو۔

۲۴  
۱۳-۶۹-۹  
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ۝

اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔

۲۵  
۱۳-۷۲-۹  
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۝



۲۶  
۱۱/۲۱ - ۱۳ - ۶۴ - ۹

تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ط  
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ ط  
عَلِيمٌ ۝

ہم جس کے مرتبہ کو چاہتے ہیں بلند کرتے  
ہیں۔ اور صاحب علم سے بڑھ کر ایک  
عالم ہے۔

۲۶  
۲۴/۲۲ - ۱۳ - ۶۳ - ۱۰

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ ط  
أَمْرًا ط

(اجی نہیں) بلکہ تمہارے لیے تمہارے دل  
نے ایک بات گڑھلی ہے۔

۲۶  
۲۱/۲ - ۱۳ - ۶۳ - ۱۰

وَأَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنِ  
الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝

(روتے روتے) انکی آنکھیں سفید ہو گئیں  
اور گھٹ گھٹ کر رہتے تھے۔

۲۹  
۸/۲ - ۱۳ - ۶۴ - ۱۰

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى  
اللَّهِ ۝

میں تو اپنے رنج و غم کی شکایت بس  
(اپنے) اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔

۳۰  
۱۱/۶ - ۱۳ - ۶۶ - ۱۰

وَلَا تَأْسُوا مِن رَّوْحِ  
اللَّهِ ط

اور اللہ کی رحمت سے نا یوسوس نہ  
ہو۔

۳۱  
۱۵/۶ - ۱۳ - ۶۸ - ۱۰

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝

بیشک اللہ رعایت کرنے والوں کو  
جزائے خیر دیتا ہے۔

۳۲  
۱۱/۱۵ - ۱۳ - ۹۰ - ۱۰

فَرَمَّحَ اللَّهُ عَلَيْنَا ط

واقعی ہم پر اللہ نے (بڑا ہی) امان کیا۔

۳۳  
۱۰-۹۲-۱۳ ۳۳/۶

د یوسف نے کہا کہ (نہیں) آج تم پر کوئی  
الزام نہیں۔

قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ  
الْيَوْمَ ط

۳۴  
۱۱-۱۰۱-۱۳ ۳۴/۶

تو ہی میرا کارساز دنیا اور آخرت میں  
ہے۔

أَنْتَ وَآلِي فِي الدُّنْيَا وَ  
الْآخِرَةِ ج

۲۵  
۱۱-۱۰۱-۱۳ ۲۵/۱۱

مجھے دنیا سے (اپنا) فرماں بردار اٹھاؤ  
مجھے صالحین میں ملا۔

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي  
بِالصَّالِحِينَ ۵

۳۶  
۱۲-۱۰۹-۱۳ ۳۶/۸

اور عالم آخرت ہی ان لوگوں کے حق میں  
بہتر ہے جو تقویٰ (اختیار) کئے ہوتے  
ہیں سو کیا تم (اتنا بھی) نہیں سمجھتے۔

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ  
لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ط أَفَلَا  
تَعْقِلُونَ ۵

## الرَّعْدُ ۱۳

۱  
۱-۲-۱۳ ۱/۱۱

ہر ایک ایک وقت معین میں چلتا رہتا ہے

كُلٌّ يُجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط

۲  
۱-۲-۱۳ ۲/۱۱

ایک ہی پانی سے سیراب کئے جانے والے  
اور (پھر بھی) ہم ان میں سے پھلوں میں  
ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں۔

يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ قَفًّا وَ  
نُفِضَلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
فِي الْأُكُلِ ط

۳۱۳-۱۳-۱-۲

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

اور ہر قوم کیلئے ایک ہادی ہوتا ہے۔

۴۱۳-۱۳-۱-۸

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ  
أُنْثَىٰ -اللہ کو علم رہتا ہے اس کا جو کچھ کسی عورت  
کے حمل میں ہوتا ہے۔وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ  
بِإِقْدَارٍ ۝اور ہر شے اسکے نزدیک ایک معین  
اندازہ ہی سے ہے۔

۵۱۳-۱۳-۱-۹

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝(وہ) پوشیدہ اور کھلی چیزوں (سب)  
کا جاننے والا ہے۔

۶۱۳-۱۳-۱-۱۱

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا أَمْرًا بِأَنفُسِهِمْ ۝بیشک اللہ کسی قوم کی (ابھی ہمارے  
بدل نہیں دیتا جب تک وہ لوگ خود  
اپنے میں تبدیلی نہیں کر لیتے۔

۷۱۳-۱۳-۲-۱۳

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ  
وَالْمَاءُ الْيَكُوتُ مِنْ خَيْفَتِهِ ۝اور رعد اسکی پاکی بیان کرتا ہے اس  
کی حمد کے ساتھ اور (دوسرے) فرشتے بھی  
اسکے رعب و جلال سے ہی کرتے ہیں۔

۸۱۳-۱۳-۲-۱۸

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ  
الْحُسْنَىٰ ۝جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کہنا مان  
یا انکے لیے نیک (بدل) ہے۔

۳-۲۲-۱۳  $\frac{9}{4/8}$ 

أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّائِرَةِ  
انہی کے حق میں نیک انجام ہے۔

۳-۲۳-۱۳  $\frac{10}{4/8}$ 

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا  
وَمَنْ صَدَقَ مِنْ آبَائِهِمْ  
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ  
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ  
مِنْ كُلِّ بَابٍ هـ  
(یعنی ہمیشگی کے باغ میں جن میں وہ (خود  
بھی) داخل ہونگے اور (وہ بھی) جو جنت  
کے لائق ہوں گے انکے ماں باپوں میں سے  
اور انکے میاں بیویوں میں سے اور انکی اولاد  
میں سے اور فرشتے انکے پاس ہر دروازے  
سے داخل ہونگے۔

۳-۲۴-۱۳  $\frac{11}{4/8}$ 

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ  
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّائِرَةِ  
(یہ کہتے ہوئے کہ) سلامتی ہو تم پر اس کے  
صلہ میں کہ تم صبر کرتے رہے ہو، سو (تمہارا)  
اں جہاں میں بہت ہی اچھا انجام ہے۔

۳-۲۶-۱۳  $\frac{12}{11-13-11/13}$ 

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ط  
اللہ جس پر چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے  
اور جس پر چاہے تنگ کر دیتا ہے۔

۳-۲۶-۱۳  $\frac{1}{1/2}$ 

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
اور یہ لوگ دنیوی زندگی پر اترتے ہیں۔

۳-۲۸-۱۳  $\frac{13}{1/13-1/13}$ 

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ  
قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ط  
(یعنی) وہ لوگ جو ایمان لائے اور  
اللہ کے ذکر سے انہیں اطمینان ہو گیا

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ  
الْقُلُوبُ ۝

غروب سنسن لو کر ان کے ذکر سے دلوں کو  
اطمینان ہو ہی جاتا ہے۔

۱۳/۲ - ۲۹ - ۲

طُوبَىٰ لِمَن لَّهُمْ وَحَسَنٌ  
مَّا بِ ۝

ان کے لیے خوش شمالی اور خوش انجامی  
ہے۔

۱۵/۱۸ - ۳۰ - ۲

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ  
مَتَابٌ ۝

اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف  
(مجھے) واپس جانا ہے۔

۱۶/۲ - ۳۳ - ۵

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ  
مِنْ هَادٍ ۝

اور جسے اللہ گمراہ رکھے اسے کوئی راہ پر  
لے نہ والا نہیں۔

۱۶/۳۵ - ۳۵ - ۵

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَا  
الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكْرَهَا  
دَائِمًا وَظُرَىٰ ۖ تِلْكَ عُقْبَىٰ  
الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ

جنت جس کا وعدہ متقیوں سے ہوا ہے  
اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے  
سے نہریں بہا رہی ہوں گی اس کا پھل اور  
اس کا سایہ دائم ہو گا یہ انبم ہو گا  
اہل تقویٰ کے۔

۱۸/۲۳ - ۳۵ - ۱

وَعُقْبَىٰ الْكٰفِرِينَ  
النَّارُ ۝

اور کافروں کا انبم آتش (دوزخ)  
ہے۔

۱۹/۲۳ - ۳۸ - ۲

لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ ۝

ہر زمانے کیلئے ایک کتاب ہوتی ہے۔

۶۳ ۱۳ - ۳۹ - ۶

يَدْعُوا اللَّهَ مَا يَبْنَأُ وَ  
يُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أَقْرُ  
الْكِتَابِ ۝اللہ جس (حکم) کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے  
اور جس کو چاہتا ہے، باقی رکھتا ہے اور  
اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔

## ابراہیمؑ

۱۸/۱ ۱۳ - ۳ - ۲

يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا  
عَلَى الْآخِرَةِجو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح  
دیتے ہیں۔

۱۳/۱۳ ۱۳ - ۲ - ۱

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ  
إِلَّا يَلْسَانُ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ  
لَهُمْ ۖاور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی طرف  
بھیجا اسکی زبان میں کہ وہ ان لوگوں پر احکام  
(تعلیمات) کھول کر بیان  
کریں۔

۵/۳ ۱۳ - ۵ - ۱

وَذَكَرَهُمْ بِآيَةِ اللَّهِ ۖ

اور انہیں اللہ کے معاملات یاد دلاؤ۔  
اور اگر شکر کرو گے تو تمہیں ضرور زیادہ  
دوں گا۔

۱۳/۱۳ ۱۳ - ۶ - ۲

لَنْ نُّنْفِثَنَّ شُكْرَكُمْ لَا نَزِيدَنَّكُمْ

اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بیشک میرا

۱۴ ۱۳ - ۶ - ۲

وَلَنْ نُّنْفِثَنَّ كُفْرَكُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۵

عذاب بلا سخت ہے۔

۱۱۱/۱۳-۱۲-۲

وَمَا لَنَا إِلَّا نُنزِّلُ عَلَىٰ

اور ہم اللہ پر بھروسہ کیسے نہ رکھیں اور انہیں

اللَّهُ وَقَدْ هَدَيْنَا

اس نے ہمیں راستے دکھا

سُبْحَانَ

دیتے۔

۱۱۱/۱۳-۱۲-۲

وَنَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا

اور تم نے جو ہمیں ایذا پہنچائی اس پر ہم

ادَّبْتُمْ نَاطِقًا

صہریہ ہی کریں گے۔

۱۱۱/۱۴-۱۳-۳

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ

وہ اگر چاہے تو تم اسے کونسا کرے

بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۵

اور ایک نئی مخلوق کے آئے۔

۱۱۱/۱۴-۱۳-۳

فَلَا تَلُومُونِي وَلَا تَلُومُوا

سو تم ملامت مجھ پر نہ کرو ملامت اپنے

الْأَنْفُسَ ط

آپ پر کرو۔

۱۱۱/۲۳-۱۳-۴

تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۵

ان کے اندر انکی دعا آپس میں سلام ہوگی۔

۱۱۱/۲۳-۱۳-۴

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً

کرامت کے کسی اور بھی مثیل کارزلیہ کی

كَلِيمَةٍ كَسَّجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کے

أَصْدُهَا تَابِتٌ وَفُرُوعُهَا

مشابہ ہے اس کی بڑے مضبوط اور نہیں

فِي السَّمَاءِ ۵

آسمان میں۔

۱۰/۱۴-۱۳ - ۲۴-۲۰

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ

اللہ ایمان والوں کو اُس کی بات (کی برکت) سے مضبوط رکھتا ہے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔

۱۱/۱۵۳-۲/۲۶ - ۳۱-۵

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا  
يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا  
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ  
عَلَانِيَةً مِمَّنْ قَبْلُ أَنْ  
يَأْتِيَ يَوْمَهُمْ لَآ بَعْدَ فِيهِ  
وَلَا خَلَّةٌ ۝

اُپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان رکھتے ہیں کہ نماز کی پابندی رکھیں اور تم نے جو کچھ انکو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں پیشتر اسکے کہ وہ دن اُسے جس میں زخمیرید و فروخت ہوگی اور زودستی (ہی)

۱۲/۱۹۷-۱۳ - ۳۴-۵

وَأَنْتُمْ مِنْكُمْ مَا  
سَأَلْتُمُوهُ ط

اور تم کو ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگی۔

وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ  
اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا ط

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہ کر پاؤ گے۔

۱۳/۱۴ - ۳۶-۶

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي  
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ  
رَّحِيمٌ ۝

سو جو کوئی میری راہ چلے گا وہ تو میرا ہے ہی اور جو کوئی میری نافرمانی کرے تو تو بڑا مغفرت والا ہے بڑا رحمت والا ہے۔

۱۴/۶۴ - ۳۸-۶



وَمَا يَنْحُفِي عَلَيْكَ اللَّهُ مِنْ  
شَيْءٍ

۱۳۱ ۶-۳۰-۱۳

اور اللہ سے کوئی بھی چیز نہیں چھپی رہتی  
ہے۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ أَصْلُوهُ  
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ذَا  
رَبَّتَا وَتَقَبَّلْ دُعَائِي ۝

۱۳۲ ۶-۳۱-۱۳

اے میرے پروردگار مجھ کو بھی نبی بنا  
یا بند رکھجیے اور میری نسل میں سے (بھی)  
کچھ لوگ تمہارے پروردگار ہمارے دعا قبول کرے۔

رَبَّتْ اَعْرَضِي وَلِوَالِدِي  
وَالْيَوْمِ مَنِينٍ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ  
الْحَسَنَاتِ ۝

۱۳۵ ۶-۳۵-۱۳

اے میرے پروردگار میری مغفرت کر دے  
اور میرے والدین کی اور ایساں والوں کی ہر  
روز حساب کتاب۔

وَصَرَّيْنَا لَكُمْ الْاِمْتَالَ ۝

۱۳۶ ۶-۳۶-۱۳

اور ہم نے (بھی) تم سے بنائیں بیان کی باتیں

وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكَرَهُمْ  
وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَيَنْزُولًا  
مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

۱۳۹ ۶-۵۲-۱۳

اور انہوں نے (بڑی بڑی) پھالیں پھیلانے اور  
اللہ کے سامنے انکی یہ پھالیں تھیں اور واقعی  
انکی یہ پھالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ  
بھی ٹل جائیں۔

هَذَا بَلَاغٌ لِّاَنَّاسٍ وَلِيُنذِرُوا  
بِهِ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّ مَا هُمْ  
فِيهَا مِنْ اَحَادٍ وَلِيَذَكَّرَ

یہ (قرآن) لوگوں کیلئے ایک پیام ہے اور  
انکو اپنے ذریعے سے ان کے بائیں اور تاکہ  
یقین کر لیں کہ وہی ایک خدا ہے اور انکو انہوں

أُولُو الْأَنْبَابِ ۝

فہم نصیحت حاصل کریں

## الْحَجْر ۱۵

۱۵/۲۶ ۱۳-۲-۱۰

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَكَاثُ أَصْلِيْمِيْنَ ۝

کافر بار بار تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔

۱۵/۲۶ ۱۳-۹-۱۰

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

اے نصیحت نامہ کو ہم نے دباں ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اسکے محافظ ہیں۔

۱۵/۳۱ ۱۳-۲۰-۲۰

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِيْنَ ۝

اور ہم نے اس میں معاش کے سامان تمہارے لیے ہی بنائے ہیں اور انکے لیے بھی جنھیں تم روزی نہیں دیتے۔

۱۵/۳۲ ۱۳-۲۲-۲۰

فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝

پھر ہم ہی آسمانوں سے پانی برساتے ہیں پھر وہی (پانی) ہم تم کو پلاتے ہیں اور تم اسکے جمع کرنے والے نہ تھے۔

۱۵/۳۹ ۱۳-۲۰-۳۰

وَلَا غُورِيْتُمْ أَجْعِبِينَ ۝ الْآءِ عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝

ان سب کو پہاڑ کے رہوں گا بجز ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔

۱۵/۴۱ ۱۳-۲۱-۳۰

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ

اللہ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے مجھ

مُسْتَقْبِلًا ۵

منگ (پہنچنے والا)۔

۳۰-۲۶-۱۳  $\frac{۴}{۶,۸}$ 

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۵

تم داخل ہو ان میں سلامتی (اور) امن سے

۴-۲۹-۱۳  $\frac{۸}{۴,۱۵}$ 

يَبِيَّ عَبْدِي اِنِّي اَنَا الْغَفُورُ

میرے بندوں کو خیر کرتے کہ میں یقیناً بڑا

مغفرت والا بڑا رحمت والا ہوں۔

الرَّحِيمُ ۵

۴-۵۶-۱۳  $\frac{۹}{۱۶,۶}$ 

وَمَنْ يَفْنَطْ مِنْ رَحْمَةٍ

کہ اپنے پروردگار کی رحمت سے ناامید

ہو تا ہی کون بنے بجز گمراہوں کے۔

يَبِيَّ اِلَّا الضَّالُّونَ ۵

۵-۷۲-۱۳  $\frac{۱۰}{۴,۵}$ 

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ

۔ آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مدہوشی میں

(بالکل) ہلکے ہوئے تھے۔

يَعْمَهُونَ ۵

۶-۸۶-۱۳  $\frac{۱۱}{۱,۸}$ 

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ

بیشک آپ کا پروردگار تو خالق

بڑا عظیم والا ہے۔

الْعَلِيمُ ۵

۶-۸۶-۱۳  $\frac{۱۲}{۲,۵}$ 

وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنْ اَمْنٍ

اور بالیقین ہم نے آپ کو (۷) سات

(آئینوں) دین (جو) مکرر پڑھی جاتی

ہیں، اور قرآن عظیم (دیا)

وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۵

۶-۱۱۰-۱۳  $\frac{۱۳}{۴,۵}$ 

وَ اَخْفِضْ جَنَاحَكَ

اور ایمان والوں کے لیے اپنے بازو

جھکائے رکھتے۔

لِلْمُؤْمِنِينَ ۵

عرض کر آپ کو جس امر کا حکم دیا گیا ہے اسے  
صاف سنا دیجئے اور مشرکوں کی پروا  
نہ کیجئے۔

۱۴/۵ ۶-۹۴  
فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ  
عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

سو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد  
کرتے رہیے اور سجدہ کرنیوالوں میں رہیے۔

۱۵/۴ ۶-۹۸-۱۴  
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ  
مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے  
یہاں تک کہ آپ کو امر یقین پیش آجائے۔

۱۶/۵ ۶-۶۹-۱۴  
وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ  
الْيَقِينُ ۝

## النَّحْلُ

اللہ کا حکم آپہنچا تو اب اس میں جلدی  
نہ مچاؤ۔

۱/۱۳۲ ۱-۱-۱۴  
أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا  
تَسْتَعْجِلُوهُ ۝

اس حکم کے ساتھ کہ دو لوگوں کو خبردار  
کرد کہ کوئی معبود بخیر میرے نہیں سمجھی  
سے ڈرو۔

۲/۲۲ ۱-۲-۱۴  
أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
أَنَا فَاتَّقُونِ ۝

اُس نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا مگر وہ  
تو کھلم کھلا مقابلہ پرا گیا۔

۳/۳۲ ۱-۳-۱۴  
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ  
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

۴/۱ ۱-۴-۱۴

اور انکی وجہ سے تمہاری رونق بھی بت  
بیکر (انکو) شام کے وقت (گھر) لاتے ہو  
اور بیکر (انہیں) صبح کی وقت پر نئے چھوڑ دیتے ہو

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ  
يُرِيحُونَ وَ حِينَ  
تَسْرَحُونَ ۝

۵-۱۲-۱۱

اور رہ تمہارے بوجھ بھی ایسے شہر کو لے  
جاتے ہیں جہاں ذوقِ نفس کی نعمتِ مشقت  
پہنچ نہیں سکتے۔

وَنَحْنُ أَشْفَاكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ  
لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا يَشِقُّ  
الْأَنْفُسَ ۝

۶-۱۲-۱۳

اور اسی نے تمہارے افادے کے لیے  
سحر کیا ہے رات کو اور دن کو اور سونے کو  
اور پانڈ کو اور ستارے بھی اس کے حکم سے  
سحر (قدرت) میں بیشک اس میں ان  
لوگوں کے لیے (بڑی) نشانیاں ہیں جو  
عقل سے کام لیتے رہتے ہیں۔

وَسَدَّخَرْنَاكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ  
مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ ۝ إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَعْقِلُونَ ۝

۷-۱۲-۱۴

اور ستاروں سے بھی (لوگ) راہ پاتے رہتے ہیں

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝

۸-۱۲-۱۵

اور اگر تم ان کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو  
انکا احاطہ نہ کر پاؤ گے۔

وَلَا تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي  
تُحْصَوْنَهَا ۝

۹-۱۲-۲۳

بیشک وہ کبر کر نیوالوں کو پسند نہیں کرتا۔

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

۴-۲۶-۱۴ ۲۶/۲۵

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ  
السَّمَاءِ فَتَخَرَّقَ عَلَيْهِمْ  
الْعَدَابُ مِنَ فَوْقِهِمْ  
وَأَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ  
حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝

بڑی بڑی چالیں وہ لوگ چلے جو انکے  
قبل تھے سوائے ان کی (دساری)  
عمارت بڑی زیاد سے اکھیر دی پھر ان پر  
چھت اُڑی اور ان پر عذاب اس طرف  
سے آیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ  
تھا۔

۴-۳۰-۱۴ ۳۰/۲۸

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ  
دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝

اور عالم آخرت تو اور (زیادہ) بہتر ہے  
اور اہل تقویٰ کا وہ گھر واقعی اچھا ہے۔

۵-۳۶-۱۴ ۳۶/۳

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ

سو ان میں وہ بھی ہوئے جنہیں اللہ  
نے ہدایت دی۔

۵-۳۶-۱۴ ۳۶/۲

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ  
الصَّلَاةُ ۝

اور وہ بھی جن پر گمراہی ثابت ہو کر  
رہے۔

۴-۵۲-۱۴ ۵۲/۱۱

وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۝

اور اسی کا دین واجب الاطاعت ہے۔

۴-۵۴-۱۴ ۵۴/۱۱

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ  
سُبْحٰنَهُ لَا

اور اللہ کیلئے انہوں نے بیٹیاں قرار  
دے رکھی ہیں، سبحان اللہ!

۱۶/۱۴ - ۵۸ - ۷

وَرَأَىٰ الْبَشَرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْتَىٰ  
ظَلَمَ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ  
كَغَيْظِ عَج

اور جب ان میں سے کسی کو بٹنی کی خوشخبری  
سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا  
ہے اور دل میں گھٹتا رہتا ہے۔

۱۶/۱۱ - ۱۱۲ - ۶۱ - ۸

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا  
يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا  
يَسْتَقْدِمُونَ

پھر جب انکی وہ میعاد آجائے گی تو اس  
سے وہ نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکیں  
گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

۱۸/۲۳ - ۱۲ - ۶۵ - ۸

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ  
بَعْدَ مَوْتِهَا

اور اللہ نے اوپر سے پانی اتارا پھر اس سے  
زمین کو خشک ہونے کے بعد جلا  
دیا۔

۱۹/۱۲ - ۱۲ - ۶۹ - ۹

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔

۲۰/۱۲ - ۱۲ - ۷۰ - ۹

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ  
الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ  
شَيْئًا

اور تم میں سے کوئی لوٹا دیا جاتا ہے نہ کارہ  
عمر کی طرف جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باخبری  
کے بعد چیزوں سے بے خبر ہو جاتا  
ہے۔

۲۱/۱۳ - ۱۱/۱۳ - ۱۴ - ۱۰

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ  
بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

اور اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پر رزق کے  
سلسلہ میں فضیلت سے رکھی ہے۔

۲۲  
۱۰-۴۵-۱۳ ۱/۱۵۳-۱/۱۳۵

صَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا  
مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى  
شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ  
مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ  
يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا  
هَلْ يَسْتَوْنَ ط

اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک تو  
غلام مملوک ہے کہ کسی چیز کا اختیار نہیں  
رکھتا اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس  
سے خوب روزی مے رکھی ہے تو وہ اس میں سے  
پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے کیا ایسے لوگ  
باہم برابر ہو سکتے ہیں۔

۲۳  
۱۰-۴۶-۱۳ ۲/۳-۲/۵-۱/۱۳۵

وَصَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ  
أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ  
عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ  
عَلَى مَوْلَاهُ لَا آيِنًا  
يُوجِرُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ  
هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ  
يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى  
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ع

اور اللہ (ایک اور) مثال بیان کرتا ہے کہ  
دو شخص ہیں ایک ان میں سے گونگا ہے کسی  
چیز پر قادر نہیں اور وہ اپنے مالک پر وبال  
جان ہے اور وہ جہاں اُسے بھیجتا وہ کوئی  
کام درست کر کے نہیں لاتا، یہ شخص اور ایسا  
شخص باہم برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں  
کی تعلیم دیتا ہو اور وہ خود سیدھے راستے  
پر ہو۔

۲۴  
۱۱-۴۹-۱۳ ۱۴/۲

الْمَيِّرُوا إِلَى الطَّيْرِ  
مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ  
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا  
اللّٰهُ ط

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا  
کہ آسمان کی فضا میں قدرت کے مسخر  
ہیں انہیں کسی اور نے نہیں تمام رکھا ہے  
بجز اللہ کے۔



لیکن یہ اگر رو کر دانی کئے میں تو آپ کے ذمہ  
توصات صاف پہنچا دینے کے سوا اور  
کچھ بھی نہیں۔

۲۵  
۱۱-۸۲-۱۴

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ  
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

۲۶  
۲۴/۱۶-۱۹/۳-۲/۵-۱/۱۳

۱۳-۹۰-۳

بیشک اللہ عدل کا اور حسن سلوک کا اور  
اہل قرابت کو دیتے رہنے کا علم دیتا ہے  
اور کھلی برائی سے اور مطلق برائی سے دور  
سرکشی کی ممانعت کرتا ہے۔ وہ نہیں  
دیر، پسند دیتا ہے اس لیے کہ تم نصیحت  
قبول کرو۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ  
وَإِلْحْسَانٍ وَرَأْيَ أَبِي  
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ  
الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ۝

۲۷  
۱۳-۹۱-۱۴

اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم عہد کر  
چکے ہو اور قسموں کو بعد ان کے استقامت  
کے مت توڑو درنہما ایک تم اللہ کو ادا  
بنا چکے ہو۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا  
عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا  
الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا  
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ  
كَيْدًا ۝ ط

.....

۲۸  
۱۳-۹۲-۱۴

جو کچھ تمہارے پاس ہے تم جو جائے گا اور  
جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا  
عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۝ ط

۲۹  
۱۳-۹۳-۱۴

۱/۲۴-۸/۲۴

نیک عمل جو بھی کرے گا مرد ہو یا عورت  
بشرطیکہ صاحب ایمان ہو تو ہم ضرور  
پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔

.....

تو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان  
مردود (کے شر سے) اللہ کی پناہ مانگ  
لیا کیجئے۔

اور یہ (کلام) توفیح عربی زبان میں  
ہے۔

دراستحالیہ اس کا دل ایمان پر مطمئن  
ہو۔

اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان  
کرتا ہے کہ وہ امن و اطمینان میں رہتے  
تھے۔

انکے کھانے کا سامان بفرغت انکے  
پاس بہ طرف سے آتا رہتا۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ  
ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً  
طَيِّبَةً ۚ

۳۰  
۲۲/۵ ۱۳-۹۸-۱۴

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ  
فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ  
الرَّجِيْمِ ۝

۳۱  
۲۲/۵ ۱۴-۱۰۳-۱۴

وَهٰذَا السَّانِ عَرِيۡ  
مُبِيۡنٌ ۝

۳۲  
۱/۴۶ ۱۴-۱۰۶-۱۴

وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ  
بِالْاٰيٰتِ ۝

۳۳  
۱/۱۳۵ ۱۴-۱۱۲-۱۵

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً  
كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ۝

۳۴  
۱۱/۱۳-۱۱/۱۴ ۱۴-۱۱۲-۱۵

يٰۤاَيُّهَا رَاۤدُّهَا دَعَاۤا مِّنْ  
كُلِّ مَكَانٍ ۝

۲۵  
۱۵-۱۱۲-۱۳ ۱/۱۵۳

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ .  
لیکن انہوں نے نعمتوں کی نعمتوں کی، شکری نہ کی۔

۲۶  
۱۵-۱۱۲-۱۳ ۴/۱۶

فَإِذَا قَرَّبًا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ  
وَ الْخَوْفِ بِبِئْسَ مَا تَنْوَأُ  
يَصْنَعُونَ ۝  
اگر پرانے کے انہوں نے ایک محیط مہیٹہ اور  
خوف کا مزا لکھا یہ سبب ان کے کہ وہ ان  
کے۔

۳۷  
۱۵-۱۱۲-۱۳ ۱/۲۶-۱۳/۱۶

فَكَلُوا مِنْهَا مِنْ وَكْمٍ  
أَنَّهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ ۝  
أَشْكُرُوا أَنْعُمَ اللَّهِ إِنَّ  
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .  
سو جو چیز یہ ہیں اللہ سے ہائز اور بھوک  
سے رکھو تو ان میں سے کھاؤ اور  
اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر (و انعمین)  
نامن اسی کا پرستش کرتے ہو۔

۳۸  
۱۴-۱۲۰-۱۳ ۱/۳

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً  
قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۝  
یہ ایک ایسا نبی ہے جو اللہ اور اللہ کے  
فرمان پر دار اور اس کی طرف ایک  
رستہ کے تھے۔

۳۹  
۱۴-۱۲۱-۱۳ ۱۰/۱۰-۱۳/۱۶

ثَنَّاكَ لِلْإِنْعِيمِ ۝  
وَهَدَانَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝  
اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار اللہ نے،  
انکو اپنا نفع اور سیدھی راہ پر ڈال دیا تھا۔

۴۰  
۱۴-۱۲۵-۱۳ ۲۰/۱۶

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ  
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۝  
جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝  
ایسا اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بتانے  
حکمت سے اور اچھی نصیحت سے اور  
انکے ساتھ کسی شکریت پسندیدہ طریقیت

۱۶-۱۲۸-۱۴  $\frac{۳۱}{۱/۸-۱/۱۳}$

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا  
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

بیشک اللہ ان لوگوں کے ساتھ (رہتا ہے)  
جو تقویٰ اختیار کئے رہتے ہیں اور جو لوگ  
احسن سلوک کرتے رہتے ہیں۔

## بنی اسرائیل

۱-۱-۱۵  $\frac{۱}{۱/۱۳۳-۲۶/۲۱}$

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى  
بِعَبْدِهٖ لَيْلًا

پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندہ کو رات  
(مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک) لے گیا۔

۱-۳-۱۵  $\frac{۲}{۲۶/۳۲}$

اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

وہ بیشک بڑے شکر گزار بندے تھے۔

۱-۵-۱۵  $\frac{۳}{۲۲/۱۴}$

اُوْلٰٓئِٓ بِاٰسِٓ شَدِيْدٍ ۝

جو بڑے جنگجو ہوں گے۔

۱-۷-۱۵  $\frac{۴}{۱/۱۱}$

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ  
لِاَنْفُسِكُمْ ۝

اگر اچھے کام کرو گے اپنے ہی لیے اچھائی  
کرو گے۔

۱-۷-۱۵  $\frac{۵}{۲/۴}$

وَ اِنْ اَسَاۤءْتُمْ فَلَهَا ۝

اور اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے ہی حق میں۔

۱-۹-۱۵  $\frac{۶}{۲۲/۱۵}$

اِنْ هٰذَا الْقُرْاٰنُ يَرْهٰدِي  
بِلَتِّيْ هِيَ اَقْوَمُ ۝

بیشک قرآن ایسے (طریقہ) کی ہدایت  
کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے

۱۵-۱۱-۱

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ  
دُعَاةً بِالْخَيْرِ وَكَانَ  
الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

اور انسان برائی کی درخواست بھی دہی  
تقاضہ سے کرتا ہے (بظرح) بھلائی کی  
درخواست۔ اور انسان بے ہی جلد باز۔

۱۵-۱۴-۲

اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۝

رہے اپنا نامہ اسمال پڑھ۔

۱۵-۱۵-۲

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَجْتَنِدُ  
لِنَفْسِهِ ۝

جو کوئی راہ پلناتے سو وہ اپنے ہی نفع  
کیلئے راہ پر چلتا ہے۔

۱۵-۱۶-۲

سَعِيَهُمْ مَّشْكُورًا ۝

دانگی کو شکر منقول ہوگی۔

۱۵-۲۳-۳

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۝  
فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا  
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا  
قَوْلًا كَرِيمًا ۝

اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنا  
تو تو ان سے ہوں بھی نہ کہنا اور نہ جھوڑنا  
اور ان سے ادب کے ساتھ بات  
چیت کرنا۔

۱۵-۲۶-۳

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ  
الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَلَا تَبْذُرْ تَبذِيرًا ۝

اور تو قربت دار کو بھی اسکا حق ادا کرو  
مستحق اور مسافر کو (بھی) اسکا حق اور مال  
کو فضولیت میں مت اڑا۔

۱۵-۲۷-۳

بیشک فضولیات میں اڑانے والے شیطانوں  
کے بھائی بند ہوتے ہیں۔

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا  
إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط

۱۲/۱۱ ۱۵-۳۲-۴

اور زنا کے پاس بھی مت جاؤ یقیناً  
وہ بڑی بے حیائی ہے۔

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً ط

۱۵/۱۱ ۱۵-۳۵-۴

اور حیب ناپو تو ناپ پوری پوری رکھا  
کر اور وزن بھی صحیح ترازو سے کیا  
کو۔

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ  
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَس  
الْمُسْتَقِيمِ ط

۱۶/۱۱ ۱۵-۳۷-۴

اور زمین پر اڑا کر مت چلا کرو۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا  
بِهِ

۱۷/۱۱ ۱۵-۴۲-۵

اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ  
اسکی پاکی نہ بیان کرتی ہو البتہ تم ہی ان  
کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا نُسَبِّحُ  
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ  
نُسْبِيَّ حَمْدَهُ ط

۱۸/۱۱ ۱۵-۵۷-۶

بیشک آپ کے پروردگار کا عذاب  
بھی ڈرنے ہی کے قابل۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ  
مَرْحُومًا ط

۱۹/۱۱ ۱۵-۶۷-۷

اور ان بڑا ہی ناشکرا ہے۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ط

۲۰/۱۱ ۱۱-۲۲-۱۱/۱۳-۷

اور ہم نے بنی آدم کو عزت و وقار اور  
 تمہارے بندہ بننے کی اور دریا اور لوہا  
 میں سوار کیا اور ہم نے نفیس سے پہلے یہ  
 عطا کیا اور ہم نے ان کو اپنی بہت  
 سے مخلوقات پر تشیید و تسلیم  
 کی ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ  
 وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَدِّ وَالْبَعْرِ  
 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ النَّطِيِّاتِ  
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
 مِمَّنْ خَلَقْنَا  
 تَفْضِيلًا

۲۵۲  
۱۵-۱۶-۱۷

اور جو کوئی اس دنیا میں ادا ہوا  
 کا سو وراثت میں جو ان سے ہے  
 ان سے بالکل بٹکا ہوا۔  
 اور آپ تمہارے اسے اسے اسٹوری  
 کوئی تبدیلی نہ ہائیں گے۔

وَمَنْ ذُنِبَ فِي هَذِهِ أَعْمَى  
 فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى  
 أَضَلُّ سَبِيلًا

۷۲  
۱۵-۱۶-۱۷

وَإِذْ جَعَلْنَا لِنُوحٍ أَلْفًا  
 مِّنْ مَّوَدَّةِ رَبِّهِ

۷۳  
۱۵-۱۶-۱۷

نسا اذا لکھت کتاب دیکھو کہ یہ  
 سے رات کے اندھیرے ہوئے تاک  
 اور صبح کی نسا ہو۔  
 بیشک صبح کی نسا حضور کی کا وقت  
 ہے۔

أَتَجِدِ الصَّلَاةَ لَدُنَّكَ  
 الشَّمْسُ إِلَى غَسَقِ أَيْلٍ  
 وَفُرَّانَ الْفَجْرِ  
 إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ  
 مَشْهُودًا

۷۴  
۱۵-۱۶-۱۷

اور رات کے کچھ حصہ میں بھی سوال  
 میں توجہ پڑھ لیا کیجئے جو آپ کے

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ حُبْلًا  
 أَلْفًا نَّعَسَى

أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا  
مَّحْمُودًا ۝

حق میں زائد چیز ہے عجب کیا کہ آپ کا  
پروردگار آپ کو مقام محمود میں بلے۔

۲۵  
۱/۲۱ ۹-۸۰-۱۵

وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي  
مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ  
اَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ  
وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ  
سُلْطٰنًا نَصِيْرًا ۝

اور آپ کہتے رہیے کہ میرے پروردگار  
مجھے پنچا تو پنچانے کے وقت خوبی  
کے ساتھ اور مجھے نکالتے وقت خوبی  
سے نکالیو اور مجھے اپنے پاس سے غلبہ  
دیکھو اپنی نصرت کے ساتھ۔

۲۶  
۸/۱۹ ۹-۸۱-۱۵

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ  
الْبَاطِلُ ۝ اِنَّ الْبَاطِلَ  
كَانَ زَهُوْقًا ۝

حق (بس اب) آبی گیا اور باطل مٹ  
گیا۔ بیشک باطل تھا ہی مٹنے  
والا۔

۲۷  
۱۳/۱۲ - ۲۲/۵ - ۱/۸۴ ۹-۸۲-۱۵

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا  
هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ  
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے  
ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا  
اور رحمت ہیں۔

۲۸  
۲۹/۲ ۹-۸۳-۱۵

فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ  
اَهْدٰى سَبِيْلًا ۝

تہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ  
کون صحیح تر راستے پر ہے۔

۲۹  
۸/۱۲۸ ۱۰-۸۵-۱۵

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ط

اور آپ سے یہ روح کی بابت پوچھتے



قُلِ التُّرُوسُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي.

میں آپ کہہ دیجئے کہ رُوحِ میرے پروردگار  
کے حکم سے (ہی) ہے۔

۲۹  
۱۹/۱۳ ۱۰-۸۵-۱۵

وَمَا أَوْتَيْنَا مِنَ الْعِلْمِ

اور علم تو تھوڑا تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔

إِلَّا قَلِيلًا ۝

.....

۱۱-۹۷-۵

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمُهْدٍ

اور جسے اللہ راہ پر لانا ہے وہی راہ پا  
ہے۔

الْمُهْتَدِ ۝

۳۱  
۱۱-۹۹-۱۵

فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا

اس پر بھی ظالم لوگ بے انکار کہنے ل  
گئے۔

كُفُورًا ۝

۳۲  
۱۱-۱۰۰-۱۵

وَكَانَ الْإِنْسَانُ فَتُورًا ۝

اور انسان ہے ہی بڑا ننگ دل۔

۳۳  
۱۳-۱۰۵-۱۵

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ

ہم نے اس (کلام) کو حق کے ساتھ نازل کیا  
اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔

نَزَّلَهُ ۝

۳۴  
۱۲-۱۰۵-۱۵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا

اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے  
والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

وَنَذِيرًا ۝

۳۵  
۱۳-۱۰۰-۱۵

سُبْحَانَ رَبِّكَ إِن كَانَ

پاک ہے بنا پر پروردگار بیشک ہمارے۔

پروردگار کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔

وَعَدَدَرَبِّنَا لَبَنُّعُولًا ۝

۱۲-۱۰۹-۱۵  $\frac{۳۶}{۹/۳}$

اور تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے  
اور یہ (قرآن) کا شروع بڑھا دیتا ہے۔

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ  
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

۱۲-۱۱۰-۱۵  $\frac{۳۷}{۱۳/۳}$

جس نام سے بھی پکارواں کے اچھے ہی  
اچھے نام ہیں۔

أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ  
الْحُسْنَىٰ ۝

۱۳-۱۱۰-۱۵  $\frac{۳۸}{۱۵/۶}$

اور آپ نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھئے اور  
نہ (بالکل) چپکے ہی چپکے پڑھئے اور ان دونوں  
کے درمیان ایک متوسط طریقہ اختیار کیجئے۔

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا  
تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ  
ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

۱۲-۱۱۱-۱۵  $\frac{۳۹}{۱/۸۳}$

اور اسکی خوب بڑائیاں بیان کیجئے۔

وَكَبِيرَةٌ تَبْكِي بَرًّا ۝

## الکہف <sup>۱۸۷</sup>

۱-۱-۱۵  $\frac{۱}{۲۲/۵}$

اور اس میں (ذرا) کجی نہیں رکھی۔

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝

۱-۵-۱۵  $\frac{۲}{۲۳/۸}$

بڑی بھاری بات ہے جو انکے منہ سے  
نکلتی ہے۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ  
أَفْوَاهِهِمْ ۝

۱-۶-۱۵  $\frac{۳}{۱/۱}$

لَنْبُكُوهُمْ أَتَيْتَهُمْ أَحْسَنُ  
عَمَلًا ۝

”اگر ہم لوگوں کی آزمائش کریں تو ان میں اگر  
بہتر سے عمل کے معاملات۔“

۲۱/۱۵ - ۱۰ - ۱

وَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ نُورًا  
سُحُفًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنْ  
أَمْرِنَا أَرْشَادًا ۝

”اے ہمارے پروردگار! یہاں اپنے پاس  
رہنمائی کے لئے نوری اور ہمارے لئے  
دراں حکام میں درستی کا سامان کرے۔“

۵/۱۵ - ۱۲ - ۲

فَأَوَّا إِلَى الْكَافِرِينَ يَنْتَشِرُونَ  
لَكُمْ رُءُوسَكُمْ مِمَّنْ رَّحِمَتِي  
وَيَهَيِّئُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ  
مَرْفَقًا ۝

”تو فلاں، غاریں میں رہنا وہ تم پر تیار  
پروردگار! یہی رحمت ہے جیسا کہ  
تمہارے کام میں کامیابی کا سامان از  
تو دے گا۔“

۱۱۱/۵ - ۱۰ - ۲

وَمَنْ يُّضِلِّ فَمَنْ رَّجَعَهُ  
لَهُ وَلِيًّا مَّرْشِدًا ۝

”اور جسے وہ بے راہ کر دیتا ہے تو آپ اسے  
وہاں میں گئے کوئی مددگار راہ بتانے والا۔“

۱۱۱/۱۵ - ۱۲ - ۳

فَلْيَنْظُرِ الْإِنبِيَاءُ كَيْفَ  
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلِيَتَّكِفَ  
وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝

”سو وہ تحقیق کرے کہ کون کھانا پکیر رہے  
پھر اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس  
انے خوش تدبیریت ہم (کے اور کسی کو تمہارا  
خبر نہ ہونے دے۔“

۱۱۱/۱۵ - ۲۲ - ۳

رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۝

”انگل کے لئے۔“

۱۱۱/۱۵ - ۲۲ - ۳

اُپ کسی چیز کی نسبت یہ نہ کہا کیجئے کہ میں  
اسے کل کروں گا سوا اس (صورت)  
کے کہ اللہ بھی چاہے۔

اور اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب  
کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے  
اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔

سو ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے  
جو عمل اچھے طور پر کرے۔

اس میں سہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں  
گے کیسا اچھا صلہ ہے اور کیسی بہت جگہ  
ہے۔

اور تو جو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تونے  
یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے (وہی  
ہوتا ہے) اور (کسی میں) کوئی قوت نہیں  
بجز اللہ (کی مدد کے)

پس وہ اپنے ہاتھ متا رہ گیا۔

مال اور اولاد دنیوی زندگی کی ایک رفتی ہیں

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ  
ذَلِكَ عَدَاوَةٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ  
اللَّهُ ز

۱۰  
۱۷۸۲-۹/۸ ۲-۲۸-۱۵

وَلَا تَطْعُمْ مَنْ آغْفَلْنَا قَلْبَهُ  
عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

۱۱  
۱۷۵۴ ۲-۳۰-۱۵

إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ  
عَمَلًا ه

۱۲  
۶/۸ ۲-۳۱-۱۵

مُنْكَيْئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ  
يَعْمَهُ النَّوَابِطُ وَحَسَدَتْ  
مَرَدِّتَفَقَاهُ

۱۳  
۱۷۳۰ ۵-۳۹-۱۵

وَكَوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ  
قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ  
إِلَّا بِاللَّهِ ج

۱۴  
۲۳ ۵-۴۲-۱۵

فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ

۱۵  
۲/۳ ۶-۴۶-۱۵

الْمَالِ وَالْبَنُونَ زِينَةً ه

اور باقی رہ جانے والے اعمال صالحہ آپ کے  
پروردگار کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بھی کہیں  
بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی کہیں بہتر۔  
اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر  
قسم کے عمدہ مضمون طرح طرح سے بیان  
کئے ہیں۔

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جَ وَ الْبَقِيَّةِ  
الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَ خَيْرٌ أَمَلًا ۝

۱۶  
۱۵-۵۴-۸

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا  
الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۝

۱۷  
۱۵-۵۶-۸

اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ  
ایسی حالت میں ہرگز راہ پر نہ آئیں۔

وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى  
فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝

۱۸  
۱۵-۵۸-۸

اور آپ کا پروردگار بڑا مغفرت کرنے والا  
بڑا رحمت والا ہے۔

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۝

۱۹  
۱۵-۶۲-۹

ہمارا ناشتہ تولانا۔

إِنَّا عَدَدْنَا نَارًا

۲۰  
۱۵-۶۲-۹

میں اس آگ کے افسوسے بڑی تکلیف  
پہنچی ہے۔

لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا  
هَذَا نَصِيبًا ۝

۲۱  
۱۵-۶۶-۹

آپ میرے ساتھ نباہ نہ ہو سکے گا۔

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

۲۲  
۱۵-۶۹-۹

آپ انشاء اللہ مجھے صابر پائیں گے اور  
میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا۔

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا  
وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

۲۳  
۱۵-۴۳-۱۰-۲۶/۳۲لَا تَوَخَّأْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ  
وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي  
عُسْرًامیری بھول چوک پر گرفت نہ کیجئے اور  
میرے (اس) معاملہ میں مجھ پر تنگی نہ  
ڈالئے۔۲۲  
۱۶-۴۴-۱۰-۹/۳فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ  
أَنْ يَنْقُصَ فَآفَاقَهُ ۗپھر دونوں کو اس (بستی) میں ایک دیوار  
ملی جو گرا چاہتی تھی۔ سو حضرت نے اسے  
سیدھا کر دیا۔۲۵  
۱۶-۴۸-۱۰-۲۱/۳-۱۰/۴-۱۰/۸هَذَا جِرَاقٌ بَيْنِي  
وَبَيْنَكَ ۚدس (یہ) وقت (میری آپ کی علیحدگی  
کا ہے۔۲۶  
۱۶-۸۲-۱۰-۱/۱۴۲

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ

اور ان کا باپ ایک مرد صالح تھا۔

۲۷  
۱۶-۸۸-۱۱-۱/۱۴۲وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ وَعَيْلٌ  
صَالِحَاتٌ لَهٗ جَزَاءُ ۖ  
الْحُسْنَىٰ ۚاور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل  
کرے گا سو اس کے لیے اچھا معاوضہ  
ہے۔۲۸  
۱۶-۹۳-۱۱-۲۶/۳لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ  
قَوْلًا ۗ

جو گویا کوئی بات ہی نہیں سمجھتے تھے۔

.....

۲۹  
۱۶-۹۴-۱۱-۳۰/۱

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

یاجوج ماجوج (اس) سرزمین میں بڑا

مَنْ سَدَّ دُونَ فِي الْأَرْضِ .

مادھیاتے ہیں۔

۳۰  
۱۷/۲۲۸ - ۲۲/۱۴

فَاعْبُدُونِي بِقُوَّةٍ

سو تم میری مدد محنت سے کرو۔

۳۱  
۱۱ - ۹۸ - ۱۶

هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي

یہ (بھی) میرے پروردگار کی ایک رحمت ہے۔

۳۲  
۱۲ - ۱۰۲ - ۱۶

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي

یہ وہ لوگ ہیں جن کی (ساری) کوششیں

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

دنیا ہی کی زندگی (صرف) غارت ہو۔

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

کر رہے ہیں اور وہ بھی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ

يُحْسِنُونَ صُنْعًا

بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔

۳۳  
۱۲ - ۱۰۵ - ۱۶

وَحَبِطَتِ أَسْدًا لَهُمْ فَلَا

سو ان کے (سارے) کام غارت ہو۔

نُعِيْدُهُمْ يَوْمَ السَّيْمَةِ

گئے۔ سو ہم قیامت کے دن ان کے

وَرِثًا ۝

اعمال (کا ذرا بھی) وزن (تق) نہیں

گئے۔

۳۴  
۱۲ - ۱۰۸ - ۱۶

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ

ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے (اور)

عَنْهَا جَوْلًا ۝

نہ وہ ان سے کہیں اور اُٹلنا چاہیں گے

۳۵  
۱۲ - ۱۱۰ - ۱۶

وَلَا يُشْرِكُونَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی

أَحَدًا .

کو بھی شریک نہ کرتے۔

## مریمؑ

۱-۴-۱۶  $\frac{1}{171}$

رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ  
مِیْنِیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ  
شَیْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِکَ  
رَبِّ شَقِیًّا ۝

اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور  
ہو گئی ہیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل  
پڑی ہے اور تجھ کو پکار کر اے میرے  
پروردگار میں (کبھی) نامراد نہیں  
رہا۔

۱-۸-۱۶  $\frac{2}{2/13-16/1}$

وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْکِبَرِ  
عِیْنًا ۝

اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا  
ہوں۔

۱-۹-۱۶  $\frac{3}{171}$

هُوَ عَلٰی سَهْبٰتٍ

یہ میرے لیے آسان ہے۔

۲-۲۱-۱۶  $\frac{4}{22/13}$

وَکَانَ اَمْرًا مَّقْضٰیًا ۝

اور ایک بات طے شدہ ہے۔

۲-۲۵-۱۶  $\frac{5}{171}$

هُزِّیْ

ہلاؤ۔

۲-۲۶-۱۶  $\frac{6}{22/4}$

فَکَلِّیْ وَاشْرِبْ لِّیْ وَقَرِّیْ

کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی  
کرو۔

عِیْنًا ۝

۲-۳۰-۱۶  $\frac{6}{19/19}$



إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ <sup>تف</sup> اتَّخَذَ  
الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب  
دی اور اس نے مجھے نبی بنایا۔

۱۹/۱۶ - ۱۶ - ۳۲ - ۲

وَبَرًّا بِوَالِدَاتِي ۝

اور مجھے میری والدہ نے سچی کرنیوالا بنایا)

۹/۱۶ - ۱۶ - ۳۴ - ۲

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ  
فَاعْبُدُوهُ ۝

بیشک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا  
بھی پروردگار ہے اسی کی عبادت کرو۔

۱۰/۱۵ - ۱۶ - ۳۶ - ۲

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

یہی (دین کا) سیدھا راستہ ہے۔

۱۱/۱۳ - ۱۶ - ۳۷ - ۲

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ  
بَيْنِهِمْ ۝

پھر مختلف گروہوں نے باہم اختلاف  
ڈال لیا۔

۱۲/۱۵ - ۱۶ - ۳۹ - ۲

وَكَمْ فِي عِنْدِي وَهْدٌ لَا  
يُبْدُونَ ۝

یہ لوگ بے پروا ہیں (پڑھے میں)  
ایسا نہیں لانتے۔

۱۳/۲۱ - ۱۶ - ۴۲ - ۳

لَا تَعْبُدُوا مَا لَا يَسْمَعُ  
وَلَا يَبْصُرُ ۝

اپنے باپ سے کہا تھا اے میرے باپ  
آپ کیوں ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں  
جو نہ سنے نہ دیکھے۔

۱۴ - ۲۲ - ۳

وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْعَانٌ ۝

اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آسکے۔

۱۴ - ۲۳ - ۳

فَاتَّبِعْنِي إِهْدِيَنَّ صِرَاطًا  
سَوِيًّا

سو آپ میری پیروی کریں میں آپ کو سیدھا  
راستہ بتا دوں گا۔

۱۵/۱۴  
۳۰-۲۲-۱۶

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّسَدِ  
عَصِيًّا

شیطان بیشک خدائے رحمن کا منافق  
ہے۔

۱۶/۱۱  
۴-۵۲-۱۶

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا

اور ہم نے انکو مقرب بنا یا راز کی گفتگو کیلئے۔

۱۶/۱۵  
۴-۵۵-۱۶

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ  
وَالزَّكَاةِ

اور وہ اپنے والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم  
دیتے رہتے تھے۔

۱۸/۳۱  
۴-۲۲-۱۶

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا  
سَنًّا

اس (جنت میں) وہ کوئی فضول بات نہ  
سنیں گے ہاں البتہ سلام (کی آوازیں سنیں گے)

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
فَاكِهَةٍ وَعَشِيًّا

اور انہیں اس میں انکا کھانا صبح شام  
(بتا رہے گا)۔

۱۹/۶  
۴-۶۳-۱۶

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ  
مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ  
تَقِيًّا

یہ جنت ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں  
اسکا وارث اسکو بنا دیں گے جو (اللہ  
سے) ڈرنے والا ہو۔

۲۰/۵  
۴-۶۵-۱۶

فَاعْبُدُوا أَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ

تو اسکی عبادت کیا کرو اور اسکی عبادت  
پر قائم رہو۔

۲۱/۳۳ - ۱۶ - ۵ - ۶

وَالْبَيْتِ الصَّالِحِ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ  
قَرَدًا ۝

اور جو نیک کام باقی رہنے والے میں وہ آپ  
کے پروردگار کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر  
ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہے۔

## طہ

۱/۳۴ - ۲۳/۱۵ - ۸ - ۱۶

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ  
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

اود اللہ ہے کراسکے سوا کوئی معبود نہیں  
اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔

۲/۳۳ - ۱۶ - ۱۰ - ۱

إِنِّي أَنسَتُ نَارَ الْعَيْنِ  
أَنْتِكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ  
عَلَى النَّارِ هُدًى ۝

سوانہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم  
میں ٹھہرو میں نے آگ دکھی ہے کیا عجیب  
میں اس میں سے کوئی شعلے آؤں یا  
آگ کے پاس راستہ کا پتہ پا جاؤں۔

۳/۳۵ - ۱۶ - ۱۴ - ۱

إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا  
فَاعْبُدْنِي ۝

بیشک میں ہی اللہ ہوں کوئی معبود نہیں  
میرے سوا میری ہی عبادت کیا کرو۔

۴/۳۳ - ۱۶ - ۱۴ - ۱

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

اور میری ہی یاد کی مناساز پڑھا کرو۔

۵/۳۳ - ۱۶ - ۱۵ - ۱

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ  
بَلَاشَقِيَامَتِ آنے والی ہے۔

۶/۳۳ - ۱۶ - ۱۵ - ۱

تاکہ ہر شخص کو اسکی کوشش کا بدلہ ملے  
جائے۔

لَتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مِّمَّا  
تَسْعَىٰ ۝

۴/۲۶-۱۴-۱۸-۱

یہ میرا عصا ہے۔ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں  
اس سے اپنی بکریوں کیلئے پتہ جھارتا ہوں  
اور اس سے میرے اور کام بھی نکلتے  
ہیں۔

هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّؤُا  
عَلَيْهَا وَآهْتُمْ بِهَا عَلَىٰ  
غَنِيِّ وَيٰ لِي فِيهَا مَا رِبِّ  
أُخْرَىٰ ۝

(موسیٰ نے کہا) اے میرے پروردگار میرا  
حوصلہ اور فراخ کر دے۔

۸/۱۷۱-۱۴-۲۵-۲

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝

۹/۱۷۱-۱۴-۲۶-۲

اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے۔

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝

۱۰/۱۷۱-۱۴-۲۷-۲

اور میری زبان سے بستگی دور کر  
دے۔

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ  
لِّسَانِي ۝

۱۱/۱۷۱-۱۴-۲۸-۲

تاکہ (لوگ) میری بات (خوب) سمجھ سکیں

يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

۱۲/۲۶/۳۲-۱۴-۲۳-۲

فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ بیشک  
حد سے تجاوز کر گیا ہے۔

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ  
طَغَىٰ ۝

۱۳/۲۴/۱۴-۱۴-۲۲-۲

پھر اس سے گفتگو نرم کرنا شاید کہ وہ نصیحت

فَقَوْلًا لَّهِ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ

يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى -

قبول کرے یا ڈر ہی جائے

۱۴۷  
۱/۹۱ - ۱۶ - ۴۶ - ۲

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا

اللہ نے کہا تم ڈرو نہیں تم دونوں کے ساتھ

تو میں ہوں میں سب سنتا اور دیکھتا

ہوں -

أَسْمَعُ وَأَنبِئُ ۝

۱۵  
۲۹/۳۳ - ۱۶ - ۴۶ - ۲

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ

اور سلامتی ہے اسکے لیے جو میری راہ

پر چلے -

الرَّهْدَى ۝

۱۶  
۱۲/۲ - ۱۶ - ۵۳ - ۲

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ط

اور آسمانوں سے پانی اتلا پھر ہم نے اس

کے ذریعہ سے مختلف قسم کے طرح طرح

کے نباتات پیدا کیے -

فَاخْرَجْنَا بِهِ أَشْرَاطًا

مِمَّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۝

۱۷  
۲۳/۱۶ - ۱۶ - ۵۲ - ۲

كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَامَكُمْ ط

کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ بیشک اس

(سارے نظام) میں دلیلیں موجود ہیں

اہل عقل کیلئے -

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي

الذُّهْلِ ۝

۱۸  
۱۲/۸ - ۱۶ - ۵۵ - ۳

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

اسی (زمین) میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا -

تھا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے

اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ پھر نکالیں گے

اور جو کوئی جھوٹ باندھتا ہے وہ ناکام

ہی رہتا ہے -

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً

آخِرَى ۝

۱۹  
۱/۵۲ - ۱۶ - ۶۱ - ۳

وَكَذَّابٌ مِّنْ أَفْطَرَى ۝

۳۰  
۲۴/۱۵ - ۱۶ - ۶۲ - ۳وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ  
اسْتَعْلَىٰ ۝کہ آج فلاح اسی کی ہے جو غالب  
آئے۔۲۱  
۲۶/۳۲ - ۱۳/۱ - ۱۶ - ۶۹ - ۳لَا يُفِيدُهُ السَّاحِرُ حَيْثُ  
أَتَىٰ ۝اور جادو گر کہیں جائے کامیاب نہیں  
ہوتا۔۲۲  
۲/۱۴ - ۱۶ - ۴۳ - ۳

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

اولا اللہ تعالیٰ بدرجہا اچھے ہیں اور  
زیادہ بقا وے۔۲۳  
۱/۱۰۳ - ۱۶ - ۸۲ - ۴وَأِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ  
وَأَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ  
اهْتَدَىٰ ۝اور میں تو بڑا بخشنے والا ہوں اس کا جو توبہ کرے  
اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے  
پھر راہ پر قائم (بھی) رہے۔۲۴  
۲۰/۷۴ - ۱۶ - ۸۹ - ۴وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا أَوْ  
لَا نَفْعًا ۝اور نہ انکے کسی نقصان یا نفع پر قدرت  
رکھتا ہے۔۲۵  
۱۵/۱۲ - ۱۶ - ۹۶ - ۵قَالَ يَا بَنُو آدَمَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي  
وَلَا بِرَأْسِي ۝(ہارون) نے کہا اے میرے ماں جائے (بھائی)  
میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیے۲۶  
۱/۱۱۶ - ۱۶ - ۹۸ - ۵

وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

اس نے ہر شے کو (اپنے) علم سے گھیر رکھا ہے

۲۷  
۱/۸۰ - ۱۶ - ۱۱۱ - ۶

اور چہرے جھکے ہوئے ہونگے جی و قیوم کے سامنے  
اور قطعی ناکام رہے گا وہ جو ظلم کے کرائے  
گا۔

وَعَنْتِ الرَّجُوعَةَ لِلدَّحَى لِقِيَوْمٍ  
وَقَدْ خَابَ مَنْ حَسَلَ  
ظُلْمًا.

سو بڑا عالی شان ہے اللہ جو بادشاہ  
حقیقی ہے۔

۲۸  
۶-۱۱۳-۱۶ ۱۷/۶۴-۱۷/۱۱۰

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ

اور آپ کیسے اے میرے پروردگار بڑھا  
دے میرے علم کو۔

۲۹  
۶-۱۱۳-۱۶ ۱۷/۲۱

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

اور جو کوئی میری نصیحت سے اعراض کئے  
گا سو اس کے لئے تنگی کا سینا ہوگا۔ اور  
قیامت کے دن ہم اسے اندھا ٹھہرائیں  
گے۔

۳۰  
۶-۱۲۳-۱۶ ۱۱/۱۲-۱/۵۰-۱/۵۶

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي  
فَأِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا  
وَنُحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
أَعْمَى

اور تمہارے پروردگار کی (دوی ہوئی) روزی  
(یعنی نواب آخرت اس سے) کہیں بہتر اور پائیدار ہے۔

۳۱  
۸-۱۳۱-۱۶ ۱۱/۱۴

وَبِرِزْقِ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

اور اپنے والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے اور  
خود بھی اس کے پابند رہیے ہم آپ  
سے معاش نہیں چاہتے۔ معاش تو ہم  
خود آپ کو دیں گے۔

۳۲  
۸-۱۳۲-۱۶ ۱۷/۵

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَ  
اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ  
رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَاللَّهُ

اور بہتر انجام پر تیز گامی کا ہے۔

۸-۱۳۲-۱۶ ۱۷/۸

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

## الانبیاء

قرب الگالگوں سے اُنکے حساب (کا وقت)	۱-۱-۱۶ ۲۲/۲۳ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ.
اور وہ غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں اعراض کئے ہوئے۔	۱-۱-۱۶ ۲۰/۲۱ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرُضُونَ ۝
ہنسی کرتے ہوتے ہیں۔	۱-۲-۱۶ ۲۵/۹ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝
اُنکے دل (اس کی طرف سے) بے توجہ۔	۱-۳-۱۶ ۳۱/۲ لَا هَيْبَةَ قُلُوبِهِمْ ۝
پریشان خیالات میں۔	۱-۵-۱۶ ۹/۵ اصْفَاثٌ اَحْلَامٍ
سو تم اہل کتاب سے پوچھو دیکھو۔	۱-۷-۱۶ ۱۱/۱۵۹ فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ۔
اور ہم آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اُنکے درمیان ہے اسکو (اس طرح) نہیں بنایا کر ہم کھیل رہے ہیں۔	۲-۱۴-۱۶ ۱۱/۱۷۸ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۝
اور جو اسکے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے عاجز نہیں کرتے اور نہ وہ تمہکتے	۲-۱۹-۱۶ ۲۴/۳۲ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا



میں۔

يَسْتَحْسِرُونَ ۝

۲-۲۰-۱۶  $\frac{۸}{۲۴/۳۲}$ 

رات اور دن تیسع کرتے رہتے ہیں موقوف  
نہیں کرتے۔

يُسْتَحْسِرُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا  
يُفْتَرُونَ ۝

۲-۲۲-۱۴  $\frac{۹}{۳۰/۴}$ 

اگر ان دونوں (جگہوں) میں علاوہ اللہ  
کے کوئی معبود ہوتا تو یہ دونوں درہم برہم  
ہو گئے ہوتے۔

كَوْكَانَ فِيهِمَا إِلَهًا آخَرَ اللَّهُ  
لَفَسَدَتَا ۝

۲-۲۳-۱۴  $\frac{۱۰}{۷/۹}$ 

تم اپنی دلیل پیش تو کرو۔

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۝

۳-۳۳-۱۴  $\frac{۱۱}{۳/۲}$ 

ہم نے پانی سے ہر جاندار چمپا کو  
بنایا۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ  
شَيْءٍ حَيٍّ ۝

۳-۳۶-۱۴  $\frac{۱۲}{۱/۱۳}$ 

انسان کی خلقت ہی بلدی کے شے  
سے ہوئی ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

۳-۴۱-۱۴  $\frac{۱۳}{۲۹/۴}$ 

پر جن لوگوں نے زمہنسی اڑائی تھی ان کے  
اوپر (وہی) عذاب واقع ہوا جس پر وہ  
تسخیر کر رہے تھے۔

فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا  
مِنْهُمْ مَّا كَانُوا فِيهِ  
يَسْتَفْهِرُونَ ۝

۴-۲۲-۱۴  $\frac{۱۴}{۱/۸۴}$ 

وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا رہتا  
رات اور دن میں خدا سے تمہیں سے۔

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ  
وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۝

۱۵  
۲۴/۳۴ ۳-۲۶-۱۶

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ  
لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ  
نَفْسٌ شَيْئًا.

اور ہم قیامت کے دن میزانِ عدل قائم  
کریں گے۔ سو کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہو  
گا۔

اور اگر رائی کے برابر بھی دکی کا کوئی  
عمل (ہو گا ہم اُسے بھی لاحقہ کریں  
گے۔

۱۶  
۱/۸۳ ۲-۵۰-۱۶

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ  
أَنْزَلْنَاهُ ط

اور یہ (قرآن) ایک برکت والی (کتاب)  
نصیحت ہے کہ ہم نے اسکو اتارا ہے۔

۱۷  
۱۳/۱۸ ۵-۶۱-۱۶

قَالُوا فَاَتُوبُ عَلَيْهِ عَلَى  
أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَشْهَدُونَ ۝

(وہ لوگ) بولے تو پھر اس کو سب  
لوگوں کے سامنے لاؤ تا کہ وہ  
دیکھیں

۱۸  
۳۰/۶ ۵-۶۶-۱۶

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ  
شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ط

(آپ نے کہا تو کیا تم اللہ کے سوا ایسوں  
کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکیں اور  
نہ تمہیں نقصان ہی پہنچا سکیں۔

۱۹  
۱/۳ ۵-۶۹-۱۶

يَا سُرُّكُونِي بَرِّدًا وَسَلَامًا  
إِنِّي آهِنٌ ۝

اے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا  
ابراہیم کے حق میں۔

۲۰  
۱۶-۶۳-۵

إِنَّكُمْ كَأَنْوَاقٍ مَّرْسُورَةٍ  
فَسِيقِينَ ۝

بیشک وہ لوگ بڑے ہی بدکار  
تھے

۲۱  
۱۶-۸۲-۶

وَذِكْرِي لِلْعَبِيدِينَ ۝

اور تاکر یادگار ہے اہل عبادت کیلئے۔

۲۲  
۱۶-۸۶-۶

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ  
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

کرتیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تجی (سب انکس  
سے) پاک ہے بیشک میں ہی تصور دار ہوں۔

۲۳  
۱۶-۸۸-۶

وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور ہم ایمان والوں کو ایسی ہی نجات  
دیا کرتے ہیں۔

۲۴  
۱۶-۸۹-۶

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ  
خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝

اے میرے پروردگار مجھے لاوارث مت رکھ  
اور بہترین وارث تو خود ہی ہے۔

۲۵  
۱۶-۱۰۳-۶

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ  
السِّجْلِ لِلْكِتَابِ ۝

وہ دن (یاد رکھنے کے قابل ہے) جس  
روز ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جسطرح  
طومار کاغذات لپیٹ لیا جاتا ہے۔

۲۶  
۱۶-۱۰۵-۶

أَنَّ الْأَرْضَ صَبْرًا عِبَادِي  
الصَّالِحِينَ ۝

کہ زمین (جنت) کے وارث مہینے نیک  
بندے ہی ہوں گے۔

۲۷  
۱۶-۱۰۶-۶

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً  
۝

اور ہم نے آپ کو دنیا جہاں پر اپنی رحمت

لِّلْعَالَمِينَ ۝

ہی کیلئے بھیجا ہے۔

۲۸/۱۶-۱۱۲-۱۶

اور ہمارا پروردگار بڑا رحمت والا ہے جس سے

وَدَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ

مدد چاہی جاتی ہے ان باتوں کے مقابلہ

عَلَى مَا نَصِفُونَ ۝

میں جو تم بتایا کرتے ہو۔

## الحج ۲۲

۱/۲۲-۱۶-۱-۱

قیامت کے دن کا زلزلہ بھاری چیز ہے۔

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝

۲/۱۶-۵-۱

ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ٹہرائے رکھتے ہیں۔

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ

۳/۱۶-۶-۱

اور اللہ دوبارہ اٹھائے گا۔ انہیں جو قبر میں ہیں۔

وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

۴/۱۶-۱۰-۱

اور یہ (تو ثابت ہی ہے) کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

۵/۱۶-۱۱-۲

(یعنی) دنیا و آخرت (دونوں) کو کھو بیٹھنا ہی انتہائی محرومی

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

الْمُبِينُ ۵

ہے

۱/۳۳ ۱۶-۱۴-۲

بیشک اللہ کر ڈالتا ہے جو کچھ ارادہ  
کر لیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۵

۴/۲۵ ۱۶-۲۳-۳

وہاں انکی رشیم کی پوشاک ہوگی۔

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۵

۸/۳۱ ۱۶-۲۵-۳

اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا  
(سب) برابر ہیں۔

سَوَاءٌ فِي الْعَاكِفِ فِيهِ

وَالْبَادِ ۵

۹/۱۱ ۱۶-۲۸-۴

پس تم بھی اس میں سے کھاؤ اور مصیبت  
زورہ محتان کو بھی کھلاؤ۔

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا

الْبَائِسِ الْفَقِيرِ ۵

۲۰/۲۹ ۱۶-۲۹-۴

اور چاہیے کہ (اس) قدیم گھر کا طوفان  
کریں۔

وَلْيُظَافُوا بِالْبَيْتِ

الْعَتِيقِ ۵

۱۲/۸ ۱۶-۳۰-۴

اور جو کوئی بھی اللہ کے محترم کام کا  
ادب کرے گا سو یہ اسکے حق میں اسکے  
پروردگار کے پاس بہتر ہوگا۔

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ

فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ

رَبِّهِ ۵

۱۳/۸-۱۱/۸-۲/۳ ۱۶-۳۰-۴

سو تم بچے رہو جنوں کی گندگی سے  
اور بچے رہو جنوں سے بات

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ

الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ

الزُّورِ ۵

سے۔

۱۳/۲۶ ۱۴-۲۰-۶

وَمَسْجِدٍ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ  
اللَّهِ كَثِيرًااور مسلمانوں کی مسجد میں جن میں اللہ کا نام  
کثرت سے لیا جاتا ہے۔

۱۴/۲۲ ۱۴-۲۶-۶

فَاتَّهَمًا لَا تَعَى الْأَبْصَارُ  
وَلَكِن تَعَى الْقُلُوبُ الَّتِياصل یہ ہے کہ انکھیں اندھی نہیں ہو جایا  
کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے  
ہو جایا کرتے ہیں۔

فِي الصُّدُورِ ۵

۱۹/۱۱ ۱۴-۵۹-۸

لَيْدٌ يَخْتَلِمُهَا مَدَّ خَلًا  
يَرُضُوتَهُ طوہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ  
(بہت ہی) پسند کریں گے۔

۱۶/۳۲ ۱۴-۶۳-۸

أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً ز فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ  
مُخْضِرَةً طاللہ ہی، آسمان سے پانی برساتا  
ہے سو زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔

.....

۱۴/۱۸ ۱۴-۱۴-۹

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ  
نَصِيرٍاور نہ ان ظالموں کا کوئی مددگار  
ہوگا۔

۱۸/۲۶ ۱۴-۴۳-۱۰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ  
مَثَلٌ فَاذْكُرُوا آلِهَتَكُمْ طاے لوگو ایک بڑی بات بیان کی جاتی  
ہے سولے سے سُنو۔

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ  
دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا  
ذُبَابًا وَّ لَوْ اَجْتَمَعُوْا لَهٗ ۔

جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ  
ایک کبھی (تک تو) پیدا نہیں کر سکتے چاہے  
سب ہی اس غرض کیلئے جمع ہو جائیں۔

۲۰  
۶/۱۸ ۱۰-۴۸-۱۶

وَجَاهِدُوْا فِيْ اللّٰهِ حَقَّ  
جِهَادِهٖ ۝

اور اللہ کے (کام) میں کوشش کرتے  
رہو جو اسکی کوشش کا حق ہے۔

۲۱  
۱۰/۱۱-۲۶/۱۵ ۱۰-۴۸-۱۶

هُوَ اَجْتَنِبْكُمْ وَّمَا جَعَلَ  
عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۝  
۳۶/۲۴ مِلَّةَ اٰبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۝  
هُوَ سَمَّكَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

اس نے تمہیں برگزیدہ کیا اور اسنے تم پر  
دین کے بارہ میں کوئی تنگی نہیں کی۔  
تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم  
رہو اسی نے تمہیں مسلم قرار دیا۔

۲۲  
۱/۱۱۹ ۱۰-۴۸-۱۶

وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۝

اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو۔

۲۳  
۶/۱۸ ۱۰-۴۸-۱۶

هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى  
وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

وہی تمہارا کارساز ہے سو کیا اچھا کارساز  
ہے اور کیا اچھا مددگار۔

## الْمُؤْمِنُوْنَ

۱-۱-۱۸ ۲۶/۳۳

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝  
الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوةِهِمْ

یقیناً وہ مومنین فلاح پاگئے جو اپنی نماز  
میں شوع رکھنے والے ہیں۔

خَشِعُونَ ۝

ہیں۔

۱۸-۸-۱

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ  
وَعَهْدِهِمْ ذَعُونَ ۝اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ  
رکھنے والے ہیں۔

۱۸-۹-۱۵

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ  
يُحَافِظُونَ ۝اور جو اپنی نمازوں کی پابندی رکھنے  
والے ہیں۔

۱۸-۱۴-۱

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ  
الْخَالِقِينَ ۝کیسی شان والا ہے اللہ تمام صناعتوں  
سے بڑھ کر۔

۱۸-۲۱-۵

وَرِآنَ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ  
لَعِبْرَةً ۝اور تمہارے لیے غور کا موقع موشیوں  
میں ہے۔

۱۸-۲۱-۶

سُقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا  
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَّا فَغُكْثِرَتْ  
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ہم تمہیں پینے کو دیتے ہیں۔ انکے جوف  
میں کی چیز کو اور تمہارے لئے ان میں بہت  
سے فائدے ہیں اور ان میں سے (بعض کو)  
تم کھاتے بھی ہو۔

۱۸-۲۹-۶

رَبِّ أَنْزَلَنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا  
وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝اے میرے پروردگار مجھے برکت کا انکنا  
اتاریو اور تو سب اتارنے والوں میں سے  
اچھا ہے۔



۴/۹ ۱۸-۶۱-۳

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي  
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا  
سَابِقُونَ ۝

یہ لوگ (البتہ) فائدے جلدی جلدی حاصل  
کر رہے ہیں۔ اور وہی انکی دوڑ میں پہنچے  
سب سے آگے۔

۸/۵ ۱۸-۴۳-۳

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى  
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اور یقیناً آپ تو انکو سیدھے راستہ کی  
طرف بلا رہے ہیں۔

۹/۵ ۱۸-۹۶-۶

إِذْ فَعَرَّ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
السَّبِيحَةِ ط

اور انکی بدی کا دغیر ایسے برتاؤ سے  
کیجئے جو بہت ہی اچھا ہو۔

۱۰/۲۱ ۱۸-۹۷-۶

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ  
الشَّيْطَانِ ۝

اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا  
ہوں شیطانوں کے دوسرے۔

۱۱/۲۱ ۱۸-۹۸-۶

وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ  
يَحْضُرُونِ ۝

اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ  
مانگتا ہوں اس کا وہ (یعنی شیطان) میرے پاس بھی نہیں

۱۲/۳۴ ۱۸-۱۰۲-۶

فَمَنْ نَقَلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ  
هُمْ الْمُقَدِّحُونَ ۝

البتہ جس کسی کا پل بھاری ہو گا تو ایسے ہی  
لوگ تو کامیاب ہوں گے۔

۱۳/۱۹/۱ ۱۸-۱۱۵-۶

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا

ہاں تو کیا تمہارا خیال تھا کہ ہم نے تمہیں

خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمُ  
الْيَنَارَ لَا تَرْجِعُونَ ۝

یوں ہی بلا مقصد پیدا کر دیے اور تم  
ہمارے پاس لوٹنا کلائے نہ جاؤ گے؟

## النور

۱۸-۲-۱

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا  
كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً  
جَلْدَةٍ وَلَا يَشْرِكُ  
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ ۝

زنا کار عورت اور زنا کار مرد سو دو دنوں  
کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے  
سوتو سو درے مارو اور چاہیے کہ دونوں  
کی سزا کے وقت مسلمانوں ایک جماعت  
حاضر رہے۔

۱۸-۱۲-۲

هَذَا آيَاتُ الْقُرْآنِ ۝

اور یہ تو صریح طوفان بندی ہے۔

۱۸-۱۵-۳

وَنَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمُونَ ۝

اور تم اسے ہلکا سمجھ رہے تھے حالانکہ  
وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات  
تھی۔

۱۸-۱۶-۴

سُبْحٰنَكَ هَذَا بَلٰغَتَانِ  
عَظِيمَةٌ ۝

تو بریر تو سخت بہتان ہے۔

۱۸-۲۱-۵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اے ایمان والو تم شیطان کے قدم

لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

برقدم نہ چلو۔

الشَّيْطَانِ ط

.....

۳-۲۱-۱۸ ۴/۲

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنِ

لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک بنا

يَشَاءُ ط

کر دیتا ہے۔

۳-۲۲-۱۸ ۶/۱۵۳

وَلَا يَأْتِلُ أَوْلُوا الْفَضْلِ

اور جو تم میں بزرگی اور وسعت دانی

مِنْكُمْ وَالشَّعْبَ أَنْ

میں وہ قرابت والوں کو اور مسکینوں

يُؤْتُوا أَوْلِي الْقَرَبِيِّ وَ

کو اور بھرت فی سبیل اللہ کرنے والوں

الْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ

کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں۔

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط

.....

۳-۲۲-۱۸ ۸/۱۹

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ط

اور چاہیے کہ معاف کرتے رہیں اور

درگزر کرتے رہیں۔

۳-۲۲-۱۸ ۹/۲۱

أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے

لَكُمْ وَاللَّهُ عَفْوٌ رُ

قصور معاف کرتا ہے۔ بیشک اللہ

رَحِيمٌ ه

بڑا مغفرت والا ہے بڑا رحمت والا ہے۔

۲-۲۳-۱۸ ۱۰/۲۲

إِنَّ الَّذِينَ بَرِّمُوتَ

جو لوگ اہمیت لگاتے ہیں ان (دیوبالوں) کو

الْمُحْصَنَاتِ الْغَفِيلَاتِ

جو پاک امن میں رہنے والی ایمان والیاں ہیں

الْمُؤْمِنَاتِ لِعَنُوَانِي

ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت

میں ان کے لیے سخت عذاب درکھا  
ہوا ہے۔

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

۱۱-۲۶-۴

اے ایمان والو تم اپنے (خاص) گھروں  
کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت  
ہو۔ جب تک کہ اجازت حاصل نہ کرو  
اور انکے رہنے والوں کو سلام نہ کرو۔  
تہا سے حق میں بھی بہتر ہے تاکہ تم خیال  
رکھو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ  
بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا  
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ۝

۱۲-۳۰-۴

آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی  
نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی  
حفاظت کریں۔

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا  
مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا  
أَفْجُوهَهُمْ ۚ

۱۳-۳۱-۴

اور اپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیں مگر  
جو کھلی چیز ہے اُس میں سے اور ڈالے  
لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریباں  
پر۔

وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ  
لِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى  
جُجُوْبِهِنَّ ۚ

۱۴-۳۱-۴

اور ان لڑکوں پر جو بھی عورتوں کی  
پردہ کی بات سے واقف نہیں ہوئے

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ  
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ

النِّسَاءِ ۳ ص

میں۔

۱۵/۱۸-۳۱-۲

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَبِيئَةً  
إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْذِحُونَ ۵

تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو گے  
ایمان والو تم تم فرساح پاؤ۔

.....

۱۶/۲۴-۳۲-۱۸

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ  
إِنْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ ط

اور تم اپنے بے نکاحوں کا نکاح کرو  
اگر یہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ  
اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے  
گا۔

۱۷/۱۳۴-۱۸-۳۵-۵

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

اللہ (ہی) آسمانوں اور زمین کا نور  
ہے۔

نور ہی نور ہے۔

— نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ط

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن  
يَشَاءُ ط وَيَضْرِبُ اللَّهُ  
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط

اللہ اپنے ہی نور تک جس کو چاہتا  
ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے  
لئے دیر ہا مثالیں بیان کرتا ہے۔

۱۸/۲۶-۲۷-۱۲-۱۳-۱۵-۳۶-۲

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ  
تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ  
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

ایسے لوگ جنہیں نہ تجارت نہ بیعت میں  
ڈال دیتی ہے نہ خرید و فروخت، اللہ  
کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور

وَ اٰیَاتِ التَّرٰكُوٰةِ ۙ

زکوٰۃ دینے سے۔

۱۹/۲ - ۱۸ - ۲۳ - ۲

يَكَادُ سَنَا بَرْقٍ يَذُھَبُ  
بِالْاَبْصَارِہٖابھی اس (بادل) کی بجلی کی چمک بینائی  
کو لے جائے۔

۲۱/۲ - ۱۸ - ۲۲ - ۲

يُقَلِّبُ اللّٰهُ التَّيْلَ وَالتَّهٰۤاءَ  
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي  
الْاَبْصَارِہٖاللہ رات اور دن کو الٹا پلٹنا رہتا ہے  
اس میں اہل بینش کے لیے بڑا سبق  
ہے۔

۲۱/۲۵ - ۱۸ - ۵۲ - ۷

وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ  
وَيَخْشِ اللّٰهَ وَيَتَّقِهٖ  
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ  
الْمُتَّقُوْنَ ۙاور جو کوئی بھی کہا مانے گا اللہ اور اس کے  
رسول کا اور اللہ سے ڈرے گا اور اس  
(کی نافرمانی) سے بچے گا تو بس ایسے ہی  
لوگ بامراد ہوں گے۔

۲۲/۲۳ - ۱۸ - ۵۲ - ۷

وَمَا عَلٰی الرَّسُوْلِ اِلَّا  
الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۙاور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف  
پہنچا دینا ہے۔

۲۳/۲۶ - ۱۸ - ۶۱ - ۸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ  
تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا وَّ  
اَسْتَاۤءَاطتم پر کچھ لازم نہیں کہ سب مل کر کھاؤ  
یا الگ الگ۔

.....

۲۴/۲۴ - ۱۸ - ۶۱ - ۲

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا  
فَسَلِّمُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ  
تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ  
مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ط

پھر تم گھروں میں داخل ہونے لگتے اپنے  
لوگوں کو سلام کریں (جو) اللہ کے  
طور پر اللہ کی طرف سے (مقرر ہے)  
بارکت (اور) عمدہ (چیز)۔

## الْفُرْقَانُ

۲۲/۵ ۱۸-۱-۱

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ  
الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ  
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ  
نَذِيرًا ۝

بڑی عالی ذات ہے وہ جس نے فیصلہ  
الہی کتاب، اپنے بندہ خاص پر نازل کیا  
وہ (بندہ) سارے دنیا جہان والوں کے  
لئے ڈرانے والا ہے۔

۲۴/۲۲ ۱۸-۳-۱

وَلَا يَمْدِكُونَ لَا تَنْفِرِهِمْ  
ضَرًّا أَوْ لَافَعًا وَلَا يَمْدِكُونَ  
مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا  
كُشُورًا ۝

اور نہ کسی نفع کا اور نہ کسی کی موت کی  
اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کی جان کی  
اور نہ کسی کے، دوبارہ اٹھانے  
کا۔

۱۸/۳ ۱۸-۳-۱

فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا  
ذُورًا ۝

یہ لوگ بڑے ظلم اور محسوس کے قریب  
ہوئے۔

۱۱۳/۴ ۱۸-۴-۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَذَا الرَّسُولُ  
الَّذِي بَشَّرَكُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا  
وَأَنذَرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ إِنَّ  
رَبَّكُمْ لَعَلِيمٌ ۝

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسا ہے یہ رسول  
جو تم کو دنیا کی زندگی سے خوشخبری  
دے گا اور قیامت کے دن تم کو ڈرانے  
کا۔ تمہارا رب علم والا ہے۔

جو کھانا کھانا ہے اور بازاروں میں چلتا  
پھرتا ہے۔

يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي  
الْأَسْوَاقِ ۝

۱۸-۹-۱  
۱۱/۱۳۵-۲/۵-۱/۱۳۳

دیکھئے تو یہ لوگ آپ کے لئے کیسی  
عجیب باتیں بیان کرتے ہیں سو وہ (بالکل)  
گمراہ ہو گئے پھر وہ (بالکل) راہ نہ پاسکے۔

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ  
الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا  
يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

۱۸-۲۰-۲  
۲۱/۳

اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کیلئے  
آزمائش بنایا ہے۔

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ  
فِتْنَةً ۝

۱۸-۲۰-۲  
۱/۶۳

اور آپ کا پروردگار بڑا دیکھنے والا ہے۔

وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

۱۸-۲۱-۲  
۴/۱۲

یقیناً انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے  
کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے اور حد سے بہت  
دور نکل گئے ہیں۔

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي  
أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا  
كَبِيرًا ۝

۱۹-۲۳-۳  
۱/۱۴۰

اور ہم انکے کاموں کی طرف متوجہ ہوں  
گے جو یہ کر چکے ہیں سو انکو ایسا کر دیں گے  
جیسے پریشان غبار۔

وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا  
مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُمْ نَارًا  
مَّنشُورًا ۝

۱۹-۲۷-۳  
۴/۸

اہل جنت اس روز قیام گاہ میں مجھ

اصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ



اچھے رہیں گے اور آرام گاہ میں بھی خوب  
اچھے۔

خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ  
مَقِيلًا ۝

۱۱/۲۳ - ۱۹ - ۲۴ - ۳

اور بس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ  
کاٹ کھائے گا کاش میں رسول  
کے ساتھ راہ پر لگ لیتا۔

وَيَوْمَ مَرَّ بِعَصْفِ الطَّالِبِ عَلٰى  
يَدَيْهِ يَقُولُ يَدِيْتِنِي  
اَنْخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ  
سَبِيْلًا ۝

۱۲/۱۴ - ۱۹ - ۲۹ - ۳

اور شیطان نواں ان کو اندر کرنے  
سے جواب لے ہی دیتا ہے۔

وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ  
خَذُوْلًا ۝

۱۳/۳ - ۱۹ - ۲۸ - ۳

اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار  
میرنی داس قوم نے اس قرآن کو بالکل  
نظر انداز کر دیا تھا۔

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَرْبِ  
اِنَّ قَوْمِي اَنْخَذُوْا هٰذَا  
الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۝

۱۴/۳۵ - ۱۹ - ۳۳ - ۳

یہ لوگ ایسا بھی عجیب سوال آپ کے  
سامنے پیش کرتے ہیں ہم اس کا جواب  
ٹھیک اور وضاحت میں دے گا ہوا آپ کو بتائیں۔

وَلَا يٰۤاٰتُرِنٰكَ بِمَنْثِلِ اِلٰهٍ  
جَدُّكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنُ  
تَفْسِيْرًا ۝

۱۵/۱۵ - ۱۹ - ۳۴ - ۲

ہم نے انہیں غرق کر دیا اور تم نے انہیں  
ابک نہ تازہ دعوت بنا دیا۔

اَعْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ  
لِلنَّاسِ اٰیَةً ۝

۱۶/۱۳۵ ۱۹-۳۹-۴

وَكَلَّا صَبْرًا لَّ  
الْأَمْثَالِ زَوْكَلَّا تَبْرِنَا  
تَشْبِيرًا ۵

اور ہم نے ہر ایک کیلئے عجیب عجیب  
مضامین بیان کئے اور ہر ایک کو ہم نے  
بالکل ہی برباد کر دیا۔

۱۶/۹ ۱۹-۴۳-۴

أَذْآيْتِ مَرَاتَّ خَدَّ  
الرَّهَةِ هَوَاهُ ط

اپنے اسکی بھی حالت دیکھی ہے جس نے  
اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔

۱۸/۴ ۱۹-۴۴-۴

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ  
بَلْ هُمْ أَهْلٌ سَبِيلًا ۵

یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے  
بھی زیادہ بے راہ ہیں۔

۱۹/۱۰ ۱۹-۴۵-۱

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ  
الْبَيْلَ لِبَاسًا

وہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات  
کو پردہ کی چیز بنائی۔

۲۰/۲۹ ۱۹-۴۷-۵

وَالنَّوْمَ سُبَاتًا

اور نیند کو آرام کی چیز۔

۲۱/۱۰ ۱۹-۴۷-۵

وَجَعَلَ الرَّهَارَ نَشُورًا ۵

اور دن کو گویا جی اٹھنے کا وقت بنا دیا۔

۲۲/۳ ۱۹-۴۸-۵

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں

مَاءً طَهُورًا ۵

خوب پاک صاف (کرنیوالا)۔

۲۳/۲ ۱۹-۴۹-۵

تاکہ ہم اس کے درجے سے مراد بستی میں جان  
ٹوالیں اور اپنے پیدا کئے ہوؤں میں سے  
بکثرت مولیٰ بیوں اور انسانوں کو سیراب  
کریں۔

لِنُنْجِيَ نِي بِهِ بِلْدَانًا مَّيْتًا  
وَلِنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا  
الْغَامَا وَ اتَّاسِي  
كَثِيرًا ۝

۲۷  
۱۹-۵۲-۵

سوائے کافروں کا کہنا نہ ملے اور قرآن  
کے ذریعہ ان کا مقابلہ زرد و شور سے  
کیجئے۔

فَلَا تَطْعَمِ الْكُفْرَيْنِ  
وَجَاهِدْهُمْ بِجِهَادٍ  
كَبِيرٍ ۝

۲۵  
۲۹-۵۲-۵

اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے  
پیدا کیا۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ  
الْمَاءِ الْبَشَرَ ۝

۲۶  
۱۹-۵۲-۵

پھر انکو نمادان والا اور سراسر الہا بنایا۔

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۝

۲۶  
۱۹-۵۲-۵

اور ہم نے آپکو تو بس اسلئے بھیجا ہے کہ  
خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا  
وَنَذِيرًا ۝

۲۸  
۱۹-۵۸-۵

اور آپ بھروسہ اسے زندہ پر رکھتے ہی  
موت نہیں۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي  
لَا يَمُوتُ ۝

۲۹  
۱۴-۴۳-۶

اور زندات (مہمان کے خاص بندے

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ

وہ ہیں جو زمین پر فروٹیا کے ساتھ چلتے  
ہیں۔

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ  
هُونًا

۳۰-۱۹-۶۳-۶

اور جب ان سے جہالت والے لوگ بات  
چیت کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں خیر۔

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ  
قَالُوا سَلَامًا

۳۱-۱۹-۶۴-۶

اور راقول کو اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ  
وقیام میں لگے رہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ  
سُجَّدًا وَقِيَامًا

۳۲-۱۹-۷۱-۶

اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا  
ہے وہ بھی اللہ کی طرف خاص طور پر سوجو  
کر رہا ہے۔

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ  
مَتَابًا

۳۳-۱۹-۷۲-۶

اور جب وہ لغو مشغلوں کے پاس سے گذرتے  
ہیں تو شرافت کے ساتھ گذر جاتے ہیں۔

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا  
كِرَامًا

۳۴-۱۹-۷۴-۶

اور ہم کو پوپینز گارول کا سردار بنا  
ہے۔

وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
إِمَامًا

۳۵-۱۹-۷۷-۶

کیا اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور  
مقام ہے۔

حَسَنَتْ مَسَاقِمًا  
وَمَقَامًا

## الشُّعْرَاءُ

۱۹-۳-۱

لَعَلَّكَ بِأَخِيحُ تَفْسَاكَ  
أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

شاید کہ آپ انکے ایساں نہ لاسنے پر  
جان دے دیں گے۔

۱۹-۹-۲

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ۝

اور بیشک آپ کا پروردگار (بڑا) غائب  
جسے بڑا حکیم ہے۔

۱۴-۱۸-۱

فَقَالَ اللَّهُ تَرْبِكُمْ فِيمَا  
وَلَيْدًا

ذم (مخوف) بولا کہ تم نے تمہیں چھپن میں پرورش  
نہیں کیا تھا۔

۱۹-۲۲-۲

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَّتْ عَلَيْكَ  
أَنْ عَبَدْتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

اور یہی وہ احسان ہے کہ جس کا تو بار مجھ  
پر رکھ رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو نہت  
غلامی میں ڈال رکھا ہے۔

۱۹-۳۲-۲

فَأَلْفَى عَصَاةً فَإِذَا هُوَ  
تَعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝

پھر (موسے) نے اپنی اٹھی ڈال دی  
سو وہ ایک ایک نمایاں اڑوٹھا  
بن گیا۔

۱۴-۳۳-۲

وَنَزَعْنَا مِنَّا آلِهَتَهُمْ  
وَنَزَعْنَا بِيَدِهِمْ فِئَازَهُمْ ۝

اور اپنا ہاتھ گریبان سے ہاتھ نکالا  
تو وہ ایک ایک دیکھنے والوں کی نظر

بَيِّنَاءٌ لِّلنَّظِيرِينَ

میں بہت چمکدار ہو گیا۔

۱۳۷/۳۵-۱۹-۳

فَمَا ذَاتَا مُرُونٍ ۝

سواب کیا کہتے ہو۔

۱۳۸/۲۶-۱۹-۳

فَالْتَفَىٰ مُرْسِي عَصَاةُ

پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، بھیجے

فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

وہ ان کے بنائے ہوئے سوانگ کو

يَأْفِكُونَ ۝

نگھنے لگا۔

۱۳۹/۲۶-۱۹-۳

فَالْتَفَىٰ السَّحَرَةُ

سو جادوگر سجدے میں گر

سُجِدِينَ ۝

پڑے۔

۱۴۰/۲۶-۱۹-۳

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ

بڑے ہم ایمان لائے پروردگار

الْعَالَمِينَ ۝

عالم پر۔

۱۴۱/۲۱-۱۹-۴

إِنَّا لَمُذْرِكُونَ ۝

بول اٹھے کہ ہم تو بس پکڑے گئے۔

۱۴۲/۲۱-۱۹-۴

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي

(موسیٰ) نے فرمایا کہ ہرگز نہیں کیونکہ میرے

ہمراہ میرا پروردگار ہے وہ مجھے ابھی راہ

سَيَهْدِينِ ۝

بتا دے گا۔

۱۴۳/۲۲-۱۹-۵

هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ

دبراہیم نے کہا اچھا تو یہ تمہاری

سننے میں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ

تَدْعُونَ ۝ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ

کہ تم کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں یا ضرر پہنچا

أَوْ يَصُورُونَ ۝

سکتے ہیں۔

۱۳/۱۳ ۱۹-۸۰-۵

وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ

اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ بھی مجھے  
شفا دیتا ہے۔

يَشْفِينِ ۝

۱۵/۳۰ ۱۹-۸۱-۵

وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ

اور وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے  
زندہ کرے گا۔

يُحْيِينِ ۝

۱۶/۳۰ ۱۹-۸۳-۵

وَأَكْفِفُنِي بِالصَّدِيقِينَ

اور مجھے نیک لوگوں کیساتھ شامل کرے۔

۱۶/۳۳ ۱۹-۸۸-۵

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا

جس دن نہ مال کام آئے گا نہ

بَنُونَ ۝

اولاد۔

۱۸/۱۵ ۱۹-۸۹-۵

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ

مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک دل

سَلِيمٍ ۝

لے کر آئے۔

۱۹/۸ ۱۹-۹۰-۵

وَأَنْزَلْنَا الْجَنَّةَ

اور جنت متقیوں کے نزدیک کر دی

لِلْمُتَّقِينَ ۝

جہانے گی۔

۲۰/۳۸ ۱۹-۱۱۴-۶

وَمَا أَنَا بِظَارِدِ

اور میں ایسا نہ ہوں کہ اپنے پاس سے

الْمُؤْمِنِينَ ۝

دور کرنے والا نہیں۔

۲۱/۲۴ ۱۹-۱۸۱-۱۰

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا  
مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝

تم لوگ پورا ناپا کرو اور نقصان پہنچانے  
ولے نہ بنو۔

۲۲/۲۴ ۱۹-۱۸۲-۱۰

وَرِنُّوا بِالْقِسْطِ أَسْرَ  
الْمُسْتَقِيمِ ۝

اور صحیح ترازو سے تولو کرو۔

.....

۲۳/۲۵ ۱۹-۱۹۲-۱۰

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور بیشک یہ (قرآن) پروردگار عالم کا  
آمارا ہوا ہے۔

۲۴/۲۵ ۱۹-۱۹۳-۱۰

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝

اسے روح الامین نے آپ کے قلب پر آمارا

۲۵/۲۵ ۱۱-۱۹۵-۱۱

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ  
مُبِينٍ ۝

صاف عربی زبان میں۔

.....

۲۶/۲۶ ۱۹-۲۱۳-۱۱

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا  
آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ  
الْمُعَذِّبِينَ ۝

آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارتے  
ورنہ آپ کو بھی سزا ہونے لگے  
گی۔

۲۶/۲۶ ۱۱-۲۱۴-۱۱

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ  
الْأَقْرَبِينَ ۝

آپ اپنے کنبہ کے عزیزوں کو ڈراتے  
رہیے۔

۲۸/۱۴ ۱۹-۲۲۴-۱۱



وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ  
الْغَاوُونَ ۝

اور رہے شاعر تو انکی پیروی بڑا لوگ  
کرتے ہیں۔

۲۹  
۱۳/۱۰ - ۱۹ - ۲۲۵ - ۱۱

أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ  
يَهَيِّمُونَ ۝

وہ (شاعر) ہر میدان میں حیران پھرا  
کرتے ہیں۔

۳۰  
۲۳/۱۸ - ۱۹ - ۲۲۶ - ۱۱

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا  
يَفْعَلُونَ ۝

اور وہ کہتے وہ جی جو وہ کرتے  
نہیں۔

۳۱  
۱۸/۱ - ۱۹ - ۲۲۷ - ۱۱

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ  
ظَلَمُوا أَيَّ مَثَلٍ  
يُنْقَلِبُونَ ۝

اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے  
گا۔ جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کسی  
جگہ انکو موٹا کر جائے۔

## التَّمَلُّعُ ۲۷۷

۱  
۲۲/۵ - ۱۹ - ۱ - ۱

تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ  
مُبِينٍ ۝

یہ آیتیں ہیں قرآن اور ایک واضح  
کتاب کی۔

۲  
۲۲/۵ - ۱۹ - ۲ - ۱

هُدًى وَبُشْرَى  
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

(موجب) ہدایت و بشارت ایمان  
والوں کیلئے۔

۳  
۱۳/۲۱ - ۱۹ - ۹ - ۱

يُمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ۝

اے موسیٰ! میرے تو میں ہوں اشد بڑا غلبہ والا  
بڑا حکمت والا۔

۲/۱۳/۹

هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

۵/۱۶/۲

عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ۝

ہم کو پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی۔

۶/۱۹/۲

رَبِّ أَوْزِرْ عَنِّي أَنْ أَشْكُرَ

اے میرے پروردگار مجھے اس پر مدد امت

بِعَمَلِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا

وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ

کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں

صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي

باپ کو عطا کی ہیں اور اس پر بھی کہ

بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ

میں نیک کام کیا کروں جس سے تو راضی

الصَّالِحِينَ ۝

ہو۔ اور مجھے اپنی رحمت سے داخل رکھ

اپنے نیک بندوں میں۔

۷/۲۳/۱۹

إِنِّي أَنفَيْتُ إِلَىٰ كِتَابِ

میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا

كَرِيمٍ ۝

ہے۔

۸/۳۲/۱۹

أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۝

مجھ کو میرے معاملے میں رائے دو۔

۹/۳۴/۱۹

إِنِ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا

کہ بادشاہ جب کسی بستی میں (فاتحانہ)

داخل ہوتے ہیں تو اسے تروبالا کرتے

قَرِيْبَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا  
اِعْزَّةً اَهْلِيْهَا اِذْلَةً ۚ

ہیں اور وہاں والوں میں جو عزت دار  
ہوتے ہیں انہیں وہ ذلیل کر دیتے  
ہیں۔

۱۰/۱۶ - ۱۹ - ۳۶ - ۳۷

فَمَا اَنْسِنِ مِّنَ اللّٰهِ خَيْرٌ  
مِّمَّا اَنْتُمْ ۚ

سو اللہ نے مجھ کو جو کچھ دے رکھا ہے وہ  
اس سے کہیں بہتر ہے جو اُن سے تم کو دیا ہے۔

۱۱/۱۱ - ۱۹ - ۲۰ - ۳۷

وَمَنْ شَكَرَ وَاِنَّمَا يَشْكُرُ  
لِنَفْسِهٖ ۚ

اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع  
کیلئے شکر کرتا ہے۔

۱۲/۲۴ - ۱۹ - ۲۰ - ۳۷

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ  
كَرِيْمٌ ۝

اور جو کوئی ناکرے کرے تو میرا پروردگار  
غنی ہے کریم ہے۔

۱۳/۱۵ - ۱۹ - ۲۳ - ۲۴

اِنَّهُ صَرَحَ مُّتَمَرِّدٌ مِّنْ  
قَوٰ اِيرَیْرَهُ ۝

دسیماں نے کہا یہ تو ایک مل ہے  
شیشوں سے بنایا ہوا۔

۱۴/۲۶ - ۱۹ - ۵۰ - ۲۴

وَ مَكْرٌ وَّ اَمْرٌ كَرِيْمٌ وَّ مَكْرٌ  
مَكْرًا وَّ هُمْ لَا  
يَشْعُرُوْنَ ۝

اور ایک چال وہ چلے اور ایک چال ہم  
چلے اور (ہماری چال کی) انہیں خبر بھی  
نہ ہوئی۔

۱۵/۱۳۹ - ۱۹ - ۵۳ - ۲۴

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اور ہم نے ایمان والوں کو

وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

نجات دے دی۔

۱۶  
۱/۹۱ ۲۰-۴۰-۵

عَالَهُ مَعَ اللَّهِ

کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور بھی) خدا ہے

۱۷  
۱/۲۱ ۲۰-۴۲-۵

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ

(یہ بت بہتر ہے) یا وہ جو بے قرار کو

إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ

(فریاد) سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا

السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

ہے اور مصیبت کو دور اور تم کو زمین میں

الْأَرْضِ ۝

صاحب تصرف بناتا ہے۔

۱۸  
۱۳/۱۵ ۲۰-۶۹-۶

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین پر چلو (پھرو)

۱۹  
۲۶/۱۰ ۲۰-۶۹-۶

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام

الْمُجْرِمِينَ ۝

ہوا۔

۲۰  
۲۲/۵ ۲۰-۴۴-۶

وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ ذَرَاةٍ

اور بیشک وہ (قرآن) ایمان والوں کے

لِلْمُؤْمِنِينَ -

حق میں ہدایت و رحمت ہے۔

۲۱  
۳/۱۸-۲/۵ ۲۰-۴۱-۶

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۝

سو آپ اللہ پر توکل رکھیے۔

۲۲  
۳/۵ ۲۰-۴۹-۶

إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝

بیشک آپ صریح حق پر ہیں۔

۲۳  
۱۰/۵ ۲۰-۸۶-۷

کہ مجھ نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں  
آرام کریں اور دن بنایا جس میں دکھیں  
بھالیں۔

أَتَجْعَدْنَ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا  
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۝

۲۳  
۷۱/۴ ۲۰-۸۴-۷

جو کوئی نیکی (یعنی ایمان) لے کر لے گا  
سوا اسکو اس سے بہتر اجر ملے گا۔

وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ  
خَيْرٌ مِّنْهَا ۝

۲۵  
۲۹/۳ ۲۰-۹۲-۷

سو جو کوئی راہ پر آئے گا وہ اپنے ہی لیے  
راہ پر آئے گا۔

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي  
لِنَفْسِهِ ۝

۲۶  
۴۷/۵ ۲۰-۹۳-۷

اور آپ کا پروردگار کاموں سے بے خبر  
نہیں جو تم (سب) کر رہے ہو۔

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ ۝

## القصص

۱۰۷  
۱۰۷-۲۰-۱۰۷

اور نہ اندیشہ کرو اور نہ غم کرو۔

وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنْ ۝

۱۰۸  
۱۰۸-۲۰-۱۰۸

کہ یہ (بچہ) میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے  
عجب کیا کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم  
اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔

قَرَّتْ عَيْنِي تِي وَلَكَ  
عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ  
وَلَدًا ۝

۱۰۹  
۱۸/۳ ۲۰-۱۰۹-۲۰

بِسْمِ دُنْيَا مِیْنِ اِنْدَاوَرِ بَطْهَانَا مَهْتِ  
 اِنْ تُرِيدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
 جَبَّارًا فِی الْاَرْضِ -  
 ہو۔

.....

.....

۲۰-۱۹-۲۰ ۲/۱۵

اور (صلح) اور اصلاح نہیں  
 چاہتے۔

وَمَا تُرِيدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنْ  
 الْمُصْلِحِيْنَ ۝

۲۰-۲۱-۲۰ ۵/۲۱

اے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں  
 سے بچائیے۔

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ  
 الظَّالِمِيْنَ ۝

۳-۲۲-۲۰ ۶/۱۳

کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھی  
 راہ پر چلا دے۔

عَسَى رَبِّيْ اَنْ يَّرْهَدِيْنِيْ  
 سَوَاءَ السَّبِيْلِ ۝

۳-۲۳-۲۰ ۷/۳۲

(موسیٰؑ نے کہا) تمہارا کیا مقصود ہے

مَا خَطْبُكُمْ اَط

۳-۲۳-۲۰ ۸/۱۳

اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔

وَابُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۝

۳-۲۴-۲۰ ۹/۲۱

اے میرے پروردگار تو جو نعمت بھی مجھے  
 دے دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔

رَبِّ اِنِّيْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ  
 مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ۝

۳-۲۵-۲۰ ۱۰/۱۱

(شعیبؑ نے کہا) خوف مت کرو۔

لَا تَخَفْ فَاَنْتَ نَجْوَتْ

داب، تم ظالم لوگوں سے بچ گئے۔

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

۱۱/۱۳۷ ۲۰-۲۴-۳۰

اور میں تم پر کوئی سختی نہیں  
چاہتا۔

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ  
عَلَيْكَ ۝

۱۲/۱۳۷ ۲۰-۲۴-۳۰

دشمنیت نے کہا، تم انشا اللہ نبی کو  
خوش معاملہ پاؤ گے۔

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

(موسیٰ نے کہا، تو یہ بات میرے اور  
آپ کے درمیان ہو گئی۔

۱۳/۲۶، ۳۲ ۲۰-۲۸-۳۰

ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۝

۱۴/۲۶، ۳۲ ۲۰-۲۸-۳۰

(موسیٰ، اور ہم جو کچھ کہہ (سن رہے  
ہیں انشا اللہ اسکا گواہ ہے۔

وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

۱۵/۱۳۹ ۲۰-۳۱-۴۰

(حکم ہوا) اے موسیٰ آگے آؤ اور  
ڈرو مت۔ تم ہر طرح امن  
میں ہو۔

يُمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا  
تَخَفْ فَمَا نَتْلُو مِنْ  
الْأَمِينِينَ ۝

۱۶/۲۶، ۳۲ ۲۰-۳۸-۴۰

میں تو موسیٰ کو بھوٹا ہی سمجھتا  
ہوں۔

وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مِنَ  
الْكَاذِبِينَ ۝

۱۷/۲۵، ۳۰ ۲۰-۵۵-۶۰

اور جب کوئی لغو بات سنتے ہیں

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ

أَعْرَضُوا عَنْهُ -

تو اسے ٹال جاتے ہیں۔

۱۸/۱۱۲۲ - ۲۰ - ۵۵ - ۶

وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ  
لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ  
عَلَيْكُمْ

اور کہہ دیتے کہ ہمارے عمل ہمارے لیے  
اور تمہارے عمل تمہارے لئے تم پر  
سلام ہو۔

۱۹/۶۱۱۹ - ۲۰ - ۵۵ - ۶

لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ۝

ہم بے سمجھ لوگوں سے (تعلق قائم) نہیں چاہتے

۲۰/۲۱۶۹ - ۲۰ - ۵۶ - ۶

يُحْيِي إِلَيْهِ شِمْرَاتُ  
كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِمَّنْ  
لَدُنَّا

جہاں (حرم) ہر قسم کے پھل کھنچے  
چلے آئے ہیں ہمارے پاس سے بطور  
کھانے کے۔

۲۱/۱۱۴۴ - ۲۱/۱۴ - ۲۰ - ۶ - ۶

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ  
أَبْقَى ط

اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر  
بھی ہے اور پائیدار تر بھی۔

۲۲/۱۱۱۰ - ۲۲/۱۴۸ - ۲۰ - ۶۸ - ۶

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  
وَيَخْتَارُ ط

اور آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جس چیز  
کو بھی اسکی مشیت ہوتی ہے۔

۲۳/۸۱۴ - ۲۰ - ۶۰ - ۶

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَ  
الْآخِرَةِ ۚ

تعریف اسی کی ہے دنیا میں (بھی)  
اور آخرت میں بھی۔

۲۴/۱۱۳۳/۸ - ۲۴/۶۶ - ۲۰ - ۶۰ - ۶



اور حکومت بھی اُسی کی ہے اور اسی کے  
پاس تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔

بیشک اللہ اترانے والوں کو پسند  
نہیں کرتا۔

وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ ۝

۲۵  
۱۷/۸ - ۲۰ - ۷۶ - ۸

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝

۲۶  
۲۱/۸ - ۲۰ - ۷۷ - ۸

اور روئے زمین پر فساد و ممت  
پھیلاؤ۔

وَلَا تَبِعِ الْفَسَادَ فِي  
الْأَرْضِ ۝

۲۷  
۲۱/۸ - ۲۰ - ۷۷ - ۸

بیشک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند  
نہیں کرتا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ ۝

۲۸  
۸/۷ - ۲۰ - ۷۹ -

بیشک وہ بڑا انوشکش نصیب ہے۔  
اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو  
بڑپکائے۔

إِنَّهُ نَذَّوْحًا عَظِيمًا ۝

۲۹  
۲۱/۸ - ۲۰ - ۸۸ - ۹

وَلَا تَدْرُومَ اللَّهَ الرَّبَّ الْآخِرَ ۝

۳۰  
۲۱/۱۳ - ۲۰ - ۸۸ - ۹

ہر شے فنا ہونے والی ہے بجز اسی  
ذات کے۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا  
وَجْهَهُ ۝

## العنكبوت<sup>۲۹</sup>

۳۱  
۲۱/۳ - ۲۰ - ۱۰۲ -

ایسا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے۔

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ

محض یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوٹ  
جائیں گے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔

يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ  
هُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝

۲۰-۴-۱

اور جو کوئی محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی  
لیے محنت کرتا ہے۔

وَمَنْ جَاهَدًا فَإِنَّهٗ يَجَاهِدُ  
لِنَفْسِهٖ ۝

۲۰-۸-۱

اور ہم نے حکم دیا دیا انسان کو اپنے والدین  
کے ساتھ نیک سلوک کا۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ  
حُسْنًا ۝

۲۰-۱۴-۲

سو تم لوگ رزق اللہ کے ہاں سے  
متلاش کرو۔

فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ  
الرِّزْقَ ۝

۲۰-۱۴-۲

اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر  
ادا کرو۔

وَأَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا  
لَهُ ۝

۲۰-۲۶-۳

میں اپنے پروردگار کی طرف ترک  
دطن کر کے چلا جاؤں گا۔

إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۝

۲۰-۳۰-۳

اے میرے پروردگار مجھے مفسد لوگوں  
پر غالب کر دے۔

رَبِّ انصُرْنِي عَلَىٰ الْفٰسِقِيْنَ  
الْمُفْسِدِيْنَ ۝

۲۰-۳۴-۸

اور ملک میں فساد مت

وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ۵

پھیلاؤ۔

۹/۲۳۱-۲۰-۲۱-۲۲

وَاِنَّ اَدْوَهْنَ الْبُيُوتِ لَبَيَّتٌ

اور مکڑی کا گھر سب گھروں سے زیادہ ہوا

الْعُنْكَبُوتِ ۵

ہوتا ہے۔

۱۱/۳۵-۲۰-۲۳-۲۲

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا

ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان

لِلنَّاسِ ۷

کرتے ہیں

۱۱/۱۵۱-۲۰-۲۳-۲۲

وَمَا يَعْفِلُهَا اِلَّا

اور نہیں بس علم واسے جسے سمجھتے

الْعَالِمُونَ ۵

ہیں۔

۱۲۰/۱۵۱۳-۲۱-۲۵-۵

وَاَحْتِدِ الصَّلَاةَ ط اِنَّ

اور نماز کی پابندی رکھنے بیشک نماز

الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ النَّحْتِئَاءِ

بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے

وَالْمُنْكَرِ ط

روکتی ہے۔

۱۳۳/۲۱-۲۵-۵

وَلَنْ يَكُرَّ اللهُ اَكْبَرُ ط

اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔

۱۴۰/۱۵۲-۲۱-۲۶-۵

وَمَا يَجْرُدُ بِاٰتِنَا اِلَّا

اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں سے

الْكُفْرَ وَاَنْ ۵

مگر کفر ہوگے۔

۱۵۵/۲۱-۲۸-۵

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوْنَ مِنْ

اور آپ تو اس قرآن سے قبل نہ کوئی

کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ اُسے  
 (یعنی کوئی کتاب) اپنے ہاتھ سے لکھ  
 سکتے تھے ورنہ (یہ) نامحی شناس لوگ  
 شبہ زکا لے لگتے۔

قَبْلَهُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا  
 تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا  
 لَأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ۝

۱۶/۱۳۱ ۲۱-۵۲-۶

اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان  
 بطور گواہ کے۔

كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ  
 شَهِيدًا ۞

۱۶/۳۹ ۲۱-۵۶-۶

اے میرے ایماندار بندو میری زمین تو  
 بہت وسیع ہے سو اکیلی میری ہی ہے  
 پرستش کرو۔

لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا  
 إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ  
 فَاعْبُدُونِ ۝

۱۸/۱۱۱ ۲۱-۶۰-۶

اور کتنے ہی جانور میں جو اپنی غذا اٹھا  
 کر نہیں رکھتے اللہ ہی انہیں روزی  
 پہنچاتا ہے اور تم کو بھی۔

وَكَايِنَ مِمَّنْ ذَابَتْ لِأَنْحَمِلِ  
 بِرِزْقِهَا مِمَّنْ اللَّهُ يَرِزُّهَا  
 وَإِيَّاكُمْ رِزْقًا

۱۹/۱۳۱ ۲۱-۶۲-۶

اللہ روزی کھول دیتا ہے اپنے بندوں  
 میں سے جس کیلئے چاہتا ہے اور جسکے  
 لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ  
 يَقْدِرُ لَهُ ۞

۲۰/۲۵۱ ۲۱-۶۴-۶

اور یہ دنیوی زندگی بجز کھیل تماشا

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

إِلَّا لَمْهُوَ وَكَعْبٌ

کے کچھ ہے ہی نہیں۔

۲۱/۱۶ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳

وَأِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ

اور عالم آخرت ہی اصلی زندگی

الْحَيَوانُ

ہے۔

۲۲/۱۸ - ۲۲/۱۳ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِیْنَا

اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے

وَأِنَّ لِلَّهِ لَدَرَجَ

راستے ضرور دکھائیں گے۔ اور بیشک

الْمُحْسِنِينَ

اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

## الرُّومُ

۱/۳ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳

فِی بَضْعِ سِنِينَ

چند برسوں میں۔

۲/۴ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرِجُهُ الْمُؤْمِنُونَ

اس روز اہل ایمان اللہ کی امداد پر

خوش ہوں گے۔

۳/۳ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳

بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ

وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا

يَشَاءُ

ہے۔

۴/۸ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳

لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا

۱-۸-۲۱  $\frac{5}{24/23}$ 

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي  
الْقِسْرِ هُمْ قَف

کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں  
کیا۔

۱-۸-۱۱  $\frac{4}{25/27}$ 

وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ  
بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ۝

اور کثرت سے لوگ اپنے پروردگار کی  
ملاقات کے منکر ہیں۔

۲-۱۱-۲۱  $\frac{6}{24/15-8/24}$ 

اللَّهُ يَبَدِّءُ الْخَلْقَ ثُمَّ  
يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ ۝

اور اللہ ہی خلق کو پہلی بار بھی پیدا کرتا  
ہے۔ پھر وہی اسے دوبارہ بھی پیدا  
کر دے گا۔

۲-۱۶-۲۱  $\frac{8}{15/5}$ 

فَسُبْحٰنَ اللَّهِ حِينَ  
تُمْسُونَ وَحِينَ  
تُصْبِحُونَ ۝

سو اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے  
وقت بھی اور صبح کے وقت  
بھی۔

۲-۱۸-۲۱  $\frac{9}{10/5}$ 

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ  
وَ الْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ  
تُظْهِرُونَ ۝

اور آسمانوں اور زمین میں حمد اُسکی  
کی ہوتی ہے اور بعد زوال بھی اور  
ظہر کے وقت بھی۔

۳-۲۶-۲۱  $\frac{11}{13/14}$ 

كُلٌّ لَّهُ فَاِنَّتُونَ ۝

سب اسی کے تابع ہیں

۳-۲۶-۲۱  $\frac{11}{1/135}$

اور آسمانوں میں زمین میں اسی کی شان  
(سب سے) اعلیٰ ہے۔

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ ج

۱۲  
۲۱-۲۸-۲۰

(اللہ) تمہارے ہی متعلق ایک مضمون تم  
سے بیان کرتا ہے۔

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّمَّنْ  
الْفُئسِكُمْ ء

۱۳  
۲۱-۳۰-۲

تو تم کیسے ہو کر دین (حق) کی طرف اپنا  
رخ رکھو۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ  
حَنِيفًا ء

۱۴  
۲۱/۱۲-۳۰-۲

اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس  
نے انسان کو پیدا کیا۔

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ  
عَلَيْهَا ء

۱۵  
۲۱/۱۲-۳۰-۲

اللہ کی بنائی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں۔

لَا تَبْدِيلَ لِأَيِّ لِيَخْلُقَ اللَّهُ ء

۱۶  
۲۱-۳۰-۲

یہی ہے سیدھا دین۔

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ء

۱۷  
۲۱-۳۲-۲

یعنی ان لوگوں میں جنہوں نے اپنے  
دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور گروہ  
گروہ ہو گئے۔

مِنَ الَّذِينَ فَتَقُوا دِينَهُمْ  
وَكَانُوا شَتِيْعًا ء

۱۸  
۲۱-۳۶-۲

اور ہم جب لوگوں کو کچھ عنایت کا  
مزا چکھا دیتے ہیں تو وہ اس سے  
خوش ہو جاتے ہیں۔

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً  
فَرِحُوا بِهَا ء

۱۹  
۲۴/۶ - ۲۱ - ۳۶ - ۴

وَإِنْ نَصَبْنَاهُمْ سِيبَةً يَمًا  
قَدَّامَتَ آيِدِيهِمْ إِذَا هُمْ  
يَقْنُطُونَ ۝

اور اگر ان پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے  
ان کے اعمال کے بدلہ میں جو پہلے اپنے  
ہاتھوں کر چکے ہیں تو بس وہ لوگ ناامید  
ہو جاتے ہیں۔

۲۰  
۱۱/۱۳ - ۱۱/۱۳ - ۲۱ - ۳۴ - ۴

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ  
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝

کیا انہوں نے اس نظر نہ کی کہ اللہ ہی کھول  
کر روزی دیتا ہے جسکو چاہتا ہے۔ اور تنگ  
کر دیتا ہے (جسکو چاہتا ہے)۔

۲۱  
۲۶/۱۴ - ۲۲/۹ - ۲۱ - ۳۸ - ۴

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ  
وَالْيَسِيرِينَ وَالْبُنَّ السَّبِيلِ ۝

سو داسے مخاطب، تو قربت دار کو  
اسکا حق دیا کر اور (اسی طرح) مسکین  
اور مسافر کو۔

۲۲  
۲۱/۱۸ - ۲۱ - ۴۱ - ۴

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ  
وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ  
أَيْدِي النَّاسِ ۝

بلایں پھیل پڑی ہیں خشکی اور تری میں  
لوگوں کے کسوت سے۔

.....

۲۳  
۴/۵ - ۲۱ - ۴۳ - ۵

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ  
الْقَيِّمِ ۝

سو تو اپنا رخ دین مستقیم کی طرف  
کرے۔

۲۴  
۱/۴۶ - ۲۱ - ۴۴ - ۵

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۝

جو کافر رہا اس پر اسی کا کفر پڑے گا۔

۱۵  
۱/۴۶ - ۲۱ - ۴۴ - ۵



اور جو نیک عمل کر رہا ہے سو ایسے لوگ اپنے ہی  
یہ دافع و راحت کا سامان کر رہے ہیں۔

۲۶-۲۱-۲۴-۵

اور اہل ایمان کا غلبہ تو ہمارے  
ذمہ تھا۔

۲۶-۲۱-۵۰-۵

سو ذرا رحمت الہی کے آثار کو دیکھو کہ  
اللہ زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد  
کس طرح شاداب کرتا ہے۔

۲۸-۲۱-۵۸-۶

اور ہم نے لوگوں کے لئے ان قرآن  
میں ہر طرح کے مضمون بیان کئے  
ہیں۔

۲۹-۲۱-۲۰-۶

سو آپ صبر کیجئے بیشک اللہ کا وعدہ  
سچا ہے۔

## لَقْمَنُ

۱-۲۱-۳-۱

جو ہدایت اور رحمت ہے نیک  
کاروں کے حق میں۔

۲۹/۳ ۲۱-۵-۱

یہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے  
راہ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پوری فلاح  
پانے والے ہیں۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنَ  
رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ۝

۱۱/۵۴ ۲۱-۴-۱

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی  
جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہے منہ موڑ لیتا  
ہے جیسے اس نے سنا ہی  
نہیں۔

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا  
وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ  
يَسْمَعْهَا كَأَن فِيَّ أُذُنٍ  
وَعُرٍّ ۝

۱۳/۱۶ ۲۱-۱۲-۱

اور (یہ حکم) کہ اللہ کا شکر کرتے رہو۔

إِنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۝

۱۱/۹۳ ۲۱-۱۳-۲

بیشک شرک بڑا بھاری ظلم  
ہے

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ  
عَظِيمٌ ۝

۱۳/۳ ۲۱-۱۵-۲

اور اسی کی راہ پر چلنا جو میری طرف  
رجوع کئے ہو۔

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ  
إِلَىٰ ۝

۱۵/۱۳ ۲۱-۱۴-۲

نسا زکوٰۃ قائم رکھو۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ

۱۱/۳۴ ۲۱-۱۴-۲

اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو۔

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ۝

۲-۱۷-۲۱  $\frac{9}{1/134}$ 

وَأَنهٗ عَنِ الْمُنْكَرِ

اور بُرے کاموں سے روک دیا کر۔

۲-۱۷-۲۱  $\frac{10}{15/4}$ 

وَأَصْبِرْ عَلٰی مَا أَصَابَكَ ۝

اور جو کچھ ہمیشہ آئے اسی پر صبر کیا کر۔

۲-۱۷-۲۱  $\frac{11}{15/4}$ 

إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ

بیشک یہ (صبر) ہمت کے کاموں

الْأُمُورِ ۝

میں سے ہے۔

۲-۱۸-۲۱  $\frac{12}{20/1}$ 

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ

اور لوگوں سے اپنا رخ مت

لِلنَّاسِ

پھیر۔

۲-۱۸-۲۱  $\frac{13}{1/4}$ 

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ

اور زمین پر اڑ کر مت

مَرَحًا ۝

پہل۔

۲-۱۸-۲۱  $\frac{14}{2/12}$ 

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كَثَرَ

بیشک اللہ کسی تکبر کرنے والے کو پسند

مُخْتَالٍ وَخُورٍ ۝

نہیں کرتا۔

۲-۱۹-۲۱  $\frac{15}{1/135-8/23}$ 

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

بیشک سب سے بُری آواز گدے

الْحَيِّرَةِ ۝

کی ہوتی ہے۔

۳-۲۲-۲۱  $\frac{16}{19/18}$ 

وَمَنْ يُسَاجِدْ وَجْهَهُ

اور جو کوئی اپنا رخ اللہ کی طرف بھکا

دے در آنجا ایک وہ مخلص ہو تو اس  
نے بڑا مضبوط حلقہ تمام  
لیا۔

إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ  
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَى ط

۱۶  
۳-۲۵-۲۱ ۱/۴۸

اور اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں  
اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو  
وہ یہی کہیں گے اللہ نے۔

وَلْيُنْزِلْ سَاءَ لَتْرَتُهُ مَن خَلَقَ  
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَتْلُوَنَّهُ  
اللَّهُ ط

۱۸  
۳-۲۴-۲۱ ۲۲/۱۶

جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر یہ  
سب قلم بن جائیں اور اس سمندر  
کے علاوہ سات سمندر اور ہو جائیں  
تو بھی اللہ کے کلمات کی (حکایت)  
ختم نہ ہو۔

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ  
شَجَرَةٍ اَوْ قَلَمٍ وَّالْبَحْرُ  
بِهِنَّ مِنْ اَبْعَدِهٖ سَبْعَةٌ  
اَبْحُرًا مَا نِذَاتُ كَلِمَتِ  
اللَّهُ ط

۱۹  
۳-۲۸-۲۱ ۳/۱۳

تم (سب) کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا  
بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا۔

مَا خَلَقْنَاكُمْ وَّلَا بَعَثْنَاكُمْ اِلَّا  
كُنُفٰسٍ وَّ اٰحِدَةٍ ط

۲۰  
۴-۳۱-۲۱ ۲/۱۱

کیا تو نے اس پر نظر نہیں کیا کہ اللہ ہی کے  
فضل سے کشتی سمندر میں چلتی ہے  
تاکہ تم کو اللہ اپنی نشانیاں دکھائے  
بیشک اس (جہاز) میں نشانیاں ہیں

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلَّكَ تَجْرِي  
فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ  
لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ اِنَّ فِيْ  
ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّكُلِّ

صَبَّارٍ شَكُورٍ ۵

ہر صابر شاکر کیلئے۔

۲۱ - ۳۳ - ۴

فَلَا تَغْرِبَنَّكُمْ الْحَيَاةُ  
الدُّنْيَا وَقِفْهُ وَلَا يَغْرِبَنَّكُمْ  
بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّؤُوفِ ۵سو دنیاوی زندگی تمہیں کہیں دھوکہ میں  
نہ ڈال دے اور کہیں وہ بڑا فریبیہا نہیں  
اللہ کے باب میں دھوکہ میں رکھے۔

۲۲ - ۳۲ - ۲۱

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ عِلْمُ  
السَّاعَةِ ۚ وَيُنزِّلُ  
الْغَيْثَ ۚبیشک اللہ ہی کو قیامت کی خبر  
ہے۔ وہی مینہ برساتا  
ہے۔

۲۳ - ۳۲ - ۲۱

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا  
ذَاتُ نَسِيبٍ عَبْدًا ۗ وَمَا  
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ  
تَمُوتُ ۗاور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں  
کیا ہے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا  
کہ وہ کل کیا عمل کرے گا۔ اور نہ کوئی  
یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس زمین میں  
مرے گا۔

## السَّجْدَةُ

کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر)  
نے اسے گڑھ لیا ہے۔

۲۱ - ۲۰ - ۱

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ

۲۱ - ۲۰ - ۱

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۗ

سو تم کیا سمجھتے نہیں ہو۔

۳/۲۱-۶-۱

ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ  
الشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ  
الرَّحِيمِ ۝وہی جاننے والا ہے ہر لپٹ شیدہ اور  
ظاہر کا۔ زبردست ہے رحیم  
ہے۔

۴/۱۵-۸-۱

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ  
خَلَقَهُوہی جس نے جو چیز بنائی خوب ہی  
بنائی۔

۵/۱۵۲-۴-۱

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ  
مِنْ طِينٍ ۝اور انسان کی پیدائش گاسے  
شروع کی۔

۶/۱۳۰-۱۶-۳

تَتَّبَعُوا فِي جُودِ بَرِّهِمْ عَنِ  
النَّصَاجِعِ يَدْعُونَ  
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ  
كَلِمًا زانکے پہلو خواہنگاہوں سے علیحدہ رہتے  
ہیں، اپنے پروردگار کو پکارتے  
رہتے ہیں خوف سے اور امید  
سے۔

۷/۱۵۳-۱۶-۲

وَمِمَّا سَأَلْتَهُمْ لِيَفْقَهُوا

اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں  
سے خبر پکارتے رہتے ہیں۔

۸/۳۳-۱۶-۳

وَكَانُوا بِآيَاتِنَا  
يُوقِنُونَ ۝اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین  
رکھتے تھے۔

۹  
۱۲/۲-۳/۲ ۳-۲۴-۲۱

کی انہوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم خشک  
زمین کی طرف پانی پہنچاتے رہتے ہیں۔  
پھر اسکے ذریعے کھیتی پیدا کر دیتے ہیں  
جس کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ  
إِلَى الْأَرْضِ وَالْجُرُزِ فَنُخْرِجُ  
بِهِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ  
الْغَنَامُ هُمْ وَأَنْفُسُهُمْ

## ۳۳ الاحزاب

۱/۵  
۱-۱-۲۱

اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں  
اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا  
تَطِيعِ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ

۶/۵  
۱-۳-۲۱

اور آپ اللہ پر ہر دوسرے رکھتے اور اللہ  
ہی کار سازی کیلئے کافی ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ  
بِاللَّهِ وَكِيلًا

۳/۳  
۱-۳-۲۱

اللہ نے کس مرد کے سینے میں دال  
نہیں بنائے ہیں۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ  
قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ

۵/۵  
۱-۶-۲۱

نبی مومنین کے ساتھ نودان کے انفس  
سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور  
انکی زبان انکی مائیں ہیں۔

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ  
أَنْفُسِهِمْ وَأَمْرٌ وَاجِبٌ  
أَقْرَبُ مِنْهُ

۲/۵  
۱-۸-۲۱

تاکہ ان سچوں سے انکے سچ کی بابت  
سوال کرے۔

لَيَسْئَلَنَّ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ  
صِدْقِهِمْ ۚ

۲۱-۱۳-۲۱  
۲۱/۳

محض بھاگنا ہی چاہتے  
ہیں۔

اِنْ يُّرِيْدُوْنَ رَاۤءِيَ  
فِرَاۤءَاۤءِ ۝

۲۱-۵-۲۱  
۱/۹۹

درآنحالیکہ یہی لوگ پیشتر سے اللہ سے  
عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے  
اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اسکی  
باز پرس ہوگی۔

وَلَقَدْ كَانُوا عٰهَدُوْا اللّٰهَ  
مِنْ قَبْلُ لَا يُوَدُّوْنَ الْاَدْبَارَ  
وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ  
مَسْئُوْلًا ۝

۲۱-۱۶-۲۱  
۲۱/۳

آپ کہہ دیجیے تمہیں بھاگنا کچھ بھی نفع  
نہیں دے سکتا۔ اگر تم موت یا قتل سے  
بھاگتے ہو اور اس سے تمتع بھی نہیں حاصل  
کر سکتے بجز چند روز کے۔

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ  
اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ  
اَوِ الْقَتْلِ وَاِذَا لَمْ تَمْتَعُوْا  
اِلَّا قَلِيْلًا ۝

۲۱-۲۱-۲۱-۹  
۱۳/۱۳-۱۳/۱۲-۱/۳

رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود  
ہے تمہارے لیے یعنی اس کے لیے  
جو ڈرتا ہو اللہ اور روز آخرت سے  
اور ذکر الہی کثرت سے کرتا ہے

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ  
اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ  
كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ  
الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝



۱۰  
۳۱-۲۳-۳

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ  
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ  
عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ  
نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ  
وَمَا بَدَلُوا بُدْلَةً ۙ

اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں  
نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں پختے  
آئے سوال میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی  
پوری لہجے اور کچھ ان میں سے راستہ دیکھ رہے  
ہیں اور انہوں نے ذرا فرق نہیں آنے دیا۔

۱۱  
۳۱-۲۶-۳

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ  
الرُّعُوبَ ۚ

اور ان کے دلوں میں (مبارا) رعب  
بٹھا دیا۔

۱۲  
۳۱-۳۳-۳

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ۚ

اور اپنے گھروں میں قمر است رہو۔

۱۳  
۱۰/۶-۱۲/۳-۱۲/۳-۱۲/۳

وَلَاتَبَرَّجْنَ  
الْبِجَاهِيَّةَ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ  
الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَ  
رَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ  
تَطْهِيرًا ۙ

اور باہلیت تہم کے مطابق ایسا  
دکھاتی مست چہرہ اور نمازی پابندی  
رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کا اور  
اسکے رسول کا حکم مانو اللہ تو بس یہی  
چاہتا ہے کہ اسے (نبی کے  
گھر والو تم سے آلودگی کو  
دور رکھے اور تم کو خوب نکھار  
دے۔

۱۴  
۲۲/۱ - ۳۶ - ۵

اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی  
کے گادہ مرتج گمراہی میں جا پڑا۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
فَقَدْ ضَلَّ صُلَاةً مَبِينًا

۱۵  
۲۲ - ۳۶ - ۵

حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ حقدار ہے  
کہ اس سے ڈرا جائے۔

وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ

۱۶  
۲۲ - ۳۶ - ۵

اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا تھا۔

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

۱۷  
۲۲ - ۳۹ - ۵

اور بجز اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے  
تھے۔

وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا  
اللَّهَ

۱۸  
۲۲ - ۳۵ - ۶

اے نبی بیشک ہم نے آپ کو بھیجا  
ہے بطور گواہ اور بشارت دینے  
والے کے اور ڈرانے والے کے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ  
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

۱۹  
۲۲ - ۳۶ - ۶

اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے  
کے اور بطور ایک روشن چراغ کے۔

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ  
وَسِرَاجًا مُنِيرًا

۲۰  
۲۲ - ۳۷ - ۶

اور آپ بشارت دیجئے ایمان  
والوں کو کہ ان پر اللہ کی طرف سے  
بڑا ہی فضل ہے۔

وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ  
لَهُمْ مِنْ اللَّهِ فَضْلًا  
كَبِيرًا

۲۱  
۲۲ - ۳۸ - ۶

وَلَا تَطْعِ الْكٰفِرِيْنَ  
وَالْمُنٰفِقِيْنَ .

۲۲/۲۳  
۲۲-۵۳-۷

اور کافروں اور منافقوں کا کنارہ  
کیجئے۔

فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا  
وَلَا مَسْنٰنٌ لِّسِيْنٍ لِّحَدِيْثٍ ط

۲۳/۲۴  
۲۲-۵۳-۷

پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے  
جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو

اِنْ تُبَدُّواْ شَيْئًا وَّ تَحْتَوٰهُ  
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيْمًا

۲۴/۲۸  
۲۲-۵۶-۷

اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اسے  
دل میں پوشیدہ رکھو گے تو اللہ ہر  
چیز کو خوب جانتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ وَّمَلٰٓئِكَتُهٗ  
يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ ط  
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا  
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

۲۵/۱۳  
۲۲-۵۹-۸

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر  
رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو  
تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو۔  
اور خوب سلام بھیجا کرو۔

يُدْنِيْنَ عَيْدِهِنَّ مِّنْ  
جَلَدٍ بَيْنِهِنَّ ط

۲۶/۵۲  
۲۲-۶۰-۸

کراپے اور پینچی کر لیا کریں اپنی پاروں  
تھوڑی سی۔

وَالْمُرٰٓجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ

۲۷/۱۳  
۲۲-۶۲-۸

اور جو مدینہ میں ادا ہیں اڑایا کرتے ہیں۔

وَلٰكِنْ تَجِدَا لِسُنَّةِ اللّٰهِ

اور آپ اللہ کے دستور میں رہو پانا

نہ پائیں گے۔

تَبْدِيلًا ۵

۲۸  
۲۲/۱۸ - ۲۲ - ۴۰ - ۹

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور راستی  
کی بات کہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا  
اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۵

۲۹  
۲۱/۱۵ - ۲۲ - ۴۱ - ۹

اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی  
اطاعت کی سو وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
فَقَدْ فُتِنَ فَوْزًا عَظِيمًا ۵

۳۱  
۱/۱۳۹ - ۲۲ - ۴۱ - ۹

بیشک وہ بڑا ظالم ہے بڑا جاہل  
ہے۔

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا  
جَاهِلًا ۵

## السَّبَابُ ۳۲

۱  
۸/۴ - ۲۲ - ۱ - ۱

اور اسی کی حمد ہے آخرت میں۔

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ط

۲  
۲۳/۶ - ۲۲ - ۳ - ۱

اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور  
نہ کوئی چیز بڑی مگر یہ کہ (رب) کتاب  
میں میں (درج) ہے۔

وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا  
أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۵

۳  
۱۳/۱۱ - ۲۲ - ۱۲ - ۲

اور (مہم نے) سلیمان کیلئے ہوا کو (سخر  
کر دیا) اسکی صبح کی منزل مہینہ بھر کی  
ہوتی اور اسکی شام کی منزل مہینہ بھر کی ہوتی

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ مُدَّةً وَهِيَ  
شَهْرٌ وَسَرَّوَا حُرَّكَاتٍ شَهْرًا ۵

۴  
۷/۱۵ - ۲۲ - ۱۳ - ۲

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ  
الَّذِينَ كُفِرُوا ۝

اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار  
ہوتے ہیں۔

۵  
۱۱/۱۳ - ۶/۸ - ۲۲ - ۱۵ - ۲

جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ  
كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ  
اشْكُرُوا لَهُ ۝

دو (قطار میں تھیں) باغ (کی) دائیں  
اور بائیں۔ کھاؤ اپنے پروردگار کا  
(دیا ہوا) رزق اور اس کا شکر کرو۔

۶  
۲/۱۸ - ۲۱ - ۱۵ - ۲

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ  
عَفُورٌ ۝

عمدہ شہر اور مغفرت والا  
پروردگار۔

۷  
۱۳/۵ - ۲۲ - ۱۸ - ۲

سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا  
أَمِينٍ ۝

سفر کرو ان میں رات اور دن  
بے کھٹکے۔

۸  
۱۱/۵ - ۲۲ - ۲۴ - ۳

وَهُوَ الْفَتَاخُ الْعَلِيمُ ۝

وہ بڑا فیصلہ کرنے والا ہے بڑا علم  
والا ہے۔

۹  
۱۱/۱۳ - ۲۲ - ۲۸ - ۳

وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا  
كَافَّةً لِّتَأْسَ بِشَيْئًا  
وَلِنَابِيرًا وَلَئِنَّ  
النَّاسَ لَآ يَعْلَمُونَ ۝

اور ہم نے تو آپ کو سارے ہی سوالوں  
کیلئے (تو) نمبر بنا کر بھیجا ہے۔ بطور  
خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے  
کے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

۱۰  
۱۹/۲ - ۲۲ - ۳۳ - ۲

وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ تَمًا

اور وہ لوگ (اپنی) پشیمانی کو منہ کیجیں۔

رَأَوْا الْعَذَابَ

گے جبکہ عذاب دیکھ لیں گے۔

۱۱/۲۲-۳۵-۴

وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا أَكْثَرُ أَمْوَالًا

اور انہوں نے کہا ہم تو مال اور اولاد  
میں (تم سے) زیادہ ہیں۔

وَأَوْلَادًا

۱۲/۲۲-۳۶-۵

فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ

سوا ایسے لوگوں کیلئے انکے عمل کا کہیں

الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ

بڑا ہوا صلہ ہے۔ اور وہ بالاخانوں

فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ۝

میں چین سے بیٹھے ہوں گے۔

۱۳/۲۲-۳۹-۵

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ

جو چیز بھی تم خرچ کرو گے سو وہ اس

فَرَهُو يُخْلِفُهُ ج

کا عوض دے گا۔

۱۴/۲۲-۴۶-۶

فَلَوْلَا إِتْمَانًا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ

آپ یہ کہیں میں تم کو ایک بات سمجھانا ہوں

أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِيًّا

وہ یہ کہ تم اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ

فِرَادَى لِّتَمَّ تَتَفَكَّرُوا

دو دو اور ایک ایک پھر سوچو کہ

مَا يَصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ

تمہارے ان ساتھی کو جنوں تو نہیں

إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ

ہے یہ تم کو بس ایک ڈرنے والے ہیں۔

## ۳۵ الفاطر

۱/۲۲-۱-۱

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ

ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے

وَالْأَرْضِ -

جو پیدا کر نیواللہ ہے آسمانوں اور زمین کا۔

۲۲-۳-۱ ۲/۱۶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا  
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ طاے لوگو! اللہ کے احسانات اپنے  
اوپر یاد کرو۔

۳۳-۳-۱ ۳/۱۸

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ  
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ  
الْأَرْضِ طکیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو  
تمہیں آسمان اور زمین سے روزی  
بہم پہنچاتا ہے۔

۲۲-۳-۱ ۲/۱۶

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِي  
تُوفِكُونَهُکوئی معبود نہیں اس کے سوا سو تم کہاں  
الٹے پلے جا رہے ہو۔

۲۲-۵-۲ ۲/۱

وَلَا يَغْتِرْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

اور یہ نہ ہو کہ تم کو وہ بڑا فریبیہ اللہ کی  
طرف سے دھوکے میں ڈال دے۔

۲۲-۹-۲ ۱۸/۲-۱۲-۱۱

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ  
فَتَنفِثُ سَحَابًا مَسْفُوفًا  
إِلَى بَلَدٍ مَّيْبُتٍ فَا حَيَّيْنَا  
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
كَذَلِكَ النُّشُورُ طاور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے  
پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم اُسے  
بانگ بجاتے ہیں خشک نرط-زمین کی طرف  
پھر ہم اس کے ذریعہ زمین کو اسکی نشکی کے بعد  
سبز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جی اٹھنا ہوگا۔

۲۲-۱۰-۲ ۹/۱۹

فَلِنَّ الْعِزَّةَ جَمِيعًا ط

تو تمام عزت اللہ ہی کیلئے ہے۔

۳-۱۵-۲۲  $\frac{۱۱۰۴}{۱۲/۱۳-۱۲/۱۵}$

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ  
إِلَى اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ  
الْحَمِيدُ ۝

اے لوگو! تم ہی اللہ کے محتاج ہو۔  
اور اللہ تمام تر بے نیاز ہے (تمام)  
خوبیوں والا۔

۳-۱۸-۲۲  $\frac{۹}{۴/۴}$

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ  
لِنَفْسِهِ ۗ

اور جو پاک ہوتا ہے وہ اپنی ہی جان کے  
لیے پاک ہوتا ہے۔

۳-۲۰-۲۲  $\frac{۱۰}{۱/۱۲۶}$

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۗ

اور نہ تاریکیاں اور روشنی ہی۔

۳-۲۱-۲۲  $\frac{۱۱}{۱۸/۲-۸/۹}$

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ ۗ

اور نہ (ٹھنڈا) سایہ اور (جلتی ہوئی)  
دھوپ ہی۔

۳-۲۲-۲۲  $\frac{۱۲}{۲۶/۳-۸/۲۶}$

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا  
الْأَمْوَاتُ ۗ

اور نہ زندے اور مردے برابر ہو  
سکتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۗ

بیشک اللہ جو چاہتا ہے سنا دیتا ہے

۳-۲۳-۲۲  $\frac{۱۳}{۱/۱۳۴}$

إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ  
بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ

ہم ہی نے آپ کو حق کھاتھ بھيجا ہے خوشخبری  
نانے والے اور ڈرانے والے کی حیثیت سے

۴-۲۸-۲۲  $\frac{۱۴}{۱۹/۱۵}$

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ  
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ

اللہ سے ڈرتے تو بس وہی بندے ہیں  
جو علم والے ہیں۔



۱۵  
۲۲-۳۳-۴۰

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا  
الْحُزْنَ ۝

اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم  
دور کیا۔

۱۶  
۲۲-۳۱-۵۰

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۗ وَلَئِن  
ذَاتَا ان تَارَانَ أَمْسَدَتْهُمَا مِنْ  
أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ  
حَلِيمًا غَفُورًا ۝

بیشک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو اٹھائے  
ہم سے میں کہ وہ ٹل نہ جائیں اور اگر وہ  
ٹلنے لگیں بھی تو پھر اللہ کے سوا کوئی  
بھی تقام نہیں سکتا بیشک دو بڑا رحم  
والا ہے، بڑا مغفرت والا ہے۔

۱۷  
۲۲-۳۳-۵۰

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ  
تَبْدِيلًا ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ  
اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ  
پائیں گے۔ اور نہ آپ اللہ کے دستور کو  
منتقل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔

۱۸  
۲۲-۳۳-۵۰

وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ  
قُرَّةَ ۝

وہ ان سے زیادہ قوت میں بھی ان سے  
بڑھے ہوئے تھے۔

## یس ۳۶

۱  
۲۲/۵

يَس ۝  
الْحَكِيمِ ۝

یا سین قسم ہے قرآن پر مکتب  
کی۔

۲۲-۳-۱

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔

۲۲-۳-۱

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

داور (سیدھے راستہ پر ہیں۔

۲۲-۱۰-۱

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ  
أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ هُمُ الْيَوْمَانُونَاور ان کے حق میں (دونوں) برابر ہیں آپ  
انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں  
لانے کے۔

۲۲-۱۱-۵

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ  
وَأَجْرٍ كَرِيمٍآپ اے کو خوشخبری سنا دیجئے مغفرت  
اور عمدہ معاوضہ کی۔

۲۲-۱۶-۴

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَدِ  
الْمُيَبِّنِاور ہمارے ذمہ تو صرف کھلی ہوئی تبلیغ  
ہے۔

۲۳-۲۶-۶

قَبِيلٍ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ  
يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَارشاد ہو گا جہنت میں داخل ہو۔  
وہ کہنے لگے گا کاش میری قوم کو یہ  
معلوم ہو جاتا۔

۲۳-۲۶-۸

بِنَا عَذْرَٰبِي رَبِّي وَجَعَلَنِي  
مِنَ الْمُكْرَمِينَکہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے  
اور مجھے معززین میں شامل کر دیا۔

۹  
۲۲/۱۳ - ۲۳ - ۳۸ - ۳

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ  
الْعَلِيمِ ط

اور یہ اندازہ کٹھرایا ہوا ہے زبردست  
(اور علم والے (خدا) کا۔

۱۰  
۱۱/۲۶ - ۲۳ - ۴۶ - ۳

أَنْطَعِمُ مَنْ تَوَلَّيْتَهُ اللَّهُ  
أَطْعَمَهُ ت

کیا ہم نہیں کھانے کو دین جنھیں اگر خدا  
چاہے تو (بہت کچھ) کھانے کو دیتا ہے۔

۱۱  
۲/۴ - ۲۳ - ۵۸ - ۳

سَأَلْتُكَ قَوْلًا مِنْ رَبِّ  
رَحِيمٍ ط

سلام انہیں کہا جائے گا پروردگار کی  
طرف سے۔

۱۲  
۱۳/۹ - ۲۳ - ۶۹ - ۵

وَمَا عَثَمَهُ الشَّعْرُ وَمَا  
يَنْبَغِي لَذ ط

اور ہم نے آپ کو شعروں سے نہیں  
سکھائی اور نہ وہ آپ کے شایان ہے۔

۱۳  
۲۲/۵ - ۲۳ - ۶۹ - ۵

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ  
مُبِينٌ ط

یہ (قرآن) تو ایک نصیحت اور کھلی ہوئی  
آسانی کتاب ہے۔

۱۴  
۱/۲۳ - ۲۳ - ۶۶ - ۵

فَلَا يَجْرُنَاكَ قَوْلُهُمْ  
إِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا  
يُعْلِنُونَ ط

پس آپ کو ان لوگوں کا قول رنج میں  
نہ ڈالے۔ بے شک ہم ہی جانتے  
ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ  
نکال رہتے ہیں۔

## الصَّافَاتُ

۱-۴-۲۳ ۱/۴۲

إِنَّ الرِّكَمَ لَوَاحِدٌ ۝

کہ تہہ سارا معبود ایک ہی ہے۔

۱-۵-۲۳ ۱۱/۳۰-۱۱/۳۰

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝(وہ) پروردگار وہی ہے، آسمانوں اور زمین  
کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے (اُسکا)  
اور پروردگار مشرقوں کا۔

۲-۲۴-۲۳ ۲/۱۴

وَقِفْرُهُمْ إِنَّ هُمْ  
مَسْئُورُونَ ۝اور انکو (ذرا) ٹہراؤ ان سے پوچھ گچھ  
ہوگی۔

۲-۳۵-۲۳ ۴/۱۲

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ  
لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
يَسْتَكْبِرُونَ ۝یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا  
جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں  
تو یہ لوگ تکبر کیا کرتے تھے۔

۲-۴۰-۲۳ ۵/۱۲۵

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۝

مگر ہاں جو اللہ کے خاص کئے ہوئے بند ہیں

۲-۴۰-۲۳ ۶/۱۵

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَوْمُ  
الْعَظِيمُ ۝بے شک بہت بڑی کامیابی یہی  
ہے۔

۲-۴۱-۲۳ ۶/۱۴

لِيُثَلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ

ایسی ہی دکامیابی کے لیے عمل کرنے

- ۱۰  
 ۲۱/۳ ۲۳-۶۳-۲۰  
 اِنَّا جَعَلْنَا فِتْنَةً  
 لِّلظَّالِمِيْنَ ۝  
 والوں کو ٹل کر ناپا بیے
- ۱۱  
 ۲۲/۳ ۲۳-۶۹-۳۰  
 سَلَّمَ عَلٰی نُوْحٍ فِي  
 الْعَيْنِيْنَ ۝  
 نوح پر سلام ہو عالم والوں  
 میں۔
- ۱۲  
 ۲۳/۳ ۲۳-۸۰-۳۰  
 اِنَّا كَذَبْنَا  
 الْمُحْسِنِيْنَ ۝  
 بے شک تم نیکوں کو دایسا ہی ہنس  
 دیا کرتے ہیں۔
- ۱۳  
 ۲۴/۳ ۲۳-۸۱-۳۰  
 اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا  
 الْمُؤْمِنِيْنَ ۝  
 بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں  
 میں تھے۔
- ۱۴  
 ۲۵/۳ ۲۳-۸۲-۳۰  
 اِذَا جَاءَ رَبُّكَ بِقَلْبٍ  
 سَلِيْمٍ ۝  
 (ابرار) جب وہ اپنے پروردگار کی طرف  
 قلب سلیم کیساتھ توجہ ہوئے۔
- ۱۵  
 ۲۶/۳ ۲۳-۸۶-۳۰  
 اِنِّيْ سَقِيْتُ  
 فِيْ مِيْمِنٍ ۝  
 میں مضمحل ہوں۔
- ۱۶  
 ۲۷/۳ ۲۳-۹۳-۳۰  
 فَاقْبَلُوْا الْيَوْمَ الَّذِيْ  
 يَزْفُوْنَ ۝  
 پھر وہ لوگ انکے پاں دوڑتے آئے۔  
 میں اپنے پروردگار کی طرف پہلا جاؤں
- ۱۷  
 ۲۸/۳ ۲۳-۹۴-۳۰

سو وہ مجھے پہنچا ہی دے گا۔	إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّئِينَ ۱۹/۲۳ - ۱۰۰ - ۳
اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح (فرزند) دے۔	رَبِّ هَبْ لِي مِنَ التَّالِفِينَ ۱۵/۲۳ - ۱۰۲ - ۳
(اسمعیل) آپ انشا اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔	سَنَجِدَكَ إِنَّا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۱۸/۲۳ - ۱۰۹ - ۳
ابراہیم پر سلام ہو۔	سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۱۹/۲۳ - ۱۵۵ - ۵
کیا تم سوچے سے (ذرا) کام نہیں لیتے۔	أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۲۰/۲۳ - ۱۵۹ - ۵
اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔	سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۲۱/۲۳ - ۱۴۲ - ۵
بیشک غالب وہی کئے جائیں گے۔	إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۲۲/۲۳ - ۱۴۳ - ۵
اور ہمارا ہی شکر غالب رہتا ہے۔	وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۲۳/۲۳ - ۱۸۰ - ۵
پاک ہے آپ کا پروردگار بڑی عظمت کا	سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

پروردگار ان چیزوں کو جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں

عَمَّا يَصِفُونَ ۝

## ص

۱-۵-۲۳ ۱/۴۲

اسے اس نے خداؤں کو جس ایک  
تلاک دیا۔

أَجْعَلُ الزَّيْرَةَ الْهَفَاً  
وَأَجْعَلُ الْحَجَّ

۱-۵-۲۳ ۱۳/۲۰

بیشک یہ بڑی اونٹنی بات ہے۔

إِنَّ هَذَا النَّشْرُ نَجَابٌ ۝

۲-۲۱-۲۳ ۲۱/۱۰

اور ہم نے انہیں نکمت اور پیدل کرنے  
والی تفریح و تفریح کی تھی۔

وَأَنْتِئِنَّ الْجَائِدَةَ وَفَصَل  
الْحَبَابِ ۝

۲-۲۲-۲۳ ۱/۴۱

سو آپ ہمیں انصاف سے فیصلہ دیتے  
بے انصافی نہ کیجئے۔ اور ہمیں سیدھی اور  
بتاؤ متبت۔

فَأَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا  
تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى  
سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝

۲-۲۲-۲۲ ۹/۴

اور آتہ شہکار ایوں کی ایک  
دوسرے پر زیادتی کیا کرتے  
میں۔

وَإِنْ كُنْتُمْ يَرَاةِنَ الْخُلَطَاءِ  
لِيَسْبَغُوا بَعْدَهُ هَدًى عَلَى  
لَعْنِ

۳-۲۶-۲۳ ۱۶/۱۱

یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ کسی کو

هَذَا عَفَا كُنَّا فَامْنِ

اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝  
یا نہ دو تم پر کچھ حساب  
نہیں۔

۳۱/۳۳ - ۲۳ - ۲۰

هَذَا مَوْعِظٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ ۝  
یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کا اور  
پینے کا۔

۳۱/۴۳ - ۲۳ - ۲۲

يَغْمُ الْعَبْدُ ۝ اِنَّهٗ  
کیا اچھے بندے تھے (ایوبؑ) اور  
بڑے رجوع کرنے والے تھے۔

۳۱/۵۰ - ۲۳ - ۲۳

جَنَّتِ عَدْنٌ مُّفْتَحَةٌ لَّهُمْ  
دروازے انکے لیے کھلے ہوں گے۔

۳۱/۶۹ - ۲۳ - ۶۵

وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ  
اور خدا تو کوئی بھی نہیں بجز اللہ واحد  
غالب کے۔

۳۱/۵ - ۲۳ - ۸۷

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ  
یہ (قرآن) تو دنیا جہاں والوں کے لیے  
ایک نصیحت ہے۔

## الزُّمَرُ

۳۱/۵ - ۲۳ - ۱

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ  
یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب



الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

حکمت ہائے کی طرف۔

۱۰۲/۴۵ ۲۳-۲-۱

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ  
الدِّينَ ۝سو آپ خاص بننا اور کئے ان کی عبادت  
کرتے رہیں۔

۱۰۳/۴۵ ۲۳-۳-۱

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۝

یاد رکھو عبادت خاص اللہ ہی کے  
یہ ہے۔

۱۰۴/۱۱۱ ۲۳-۵-۱

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۝  
كُلٌّ يَجْرُؤُ بِالْحَبْلِ  
مُتَّسِقِينَ ۝اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا  
رکھا ہے ہر ایک مقرر وقت تک ہلتا  
رہے گا۔

۱۰۵/۱۱۲ ۲۳-۶-۶

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَدِيٌّ  
عَنْكُمْ قَف ۝اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تمہارا عا جبت  
منڈ نہیں۔

۱۰۶/۱۱۳ ۲۳-۶-۴

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ  
الْكُفْرَ ۝اور نہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو  
پسند کرتا ہے۔

۱۰۷/۱۱۴ ۲۳-۶-۱

وَأِنْ لَّمْ تَكْفُرُوا يَرْحَمْنَا  
لَكَفْرِكُمْ ۝اور اگر تم لوگ شکر کرو گے تو وہ اس  
تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔

۱۰۸/۱۱۵ ۲۳-۶-۱

نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جو  
عقل ولے ہیں

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

۲-۱۱-۲۳  $\frac{۹}{۴/۵}$

آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں  
اللہ کی عبادتِ خالص اسی کی عبادت  
کرتے ہوئے کروں۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ  
أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ  
الْدِينَ ۝

۲-۲۰-۲۳  $\frac{۱۱}{۱/۱۳۸}$

یہ، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ  
کے خلاف نہیں کرتا۔

وَعَدَ اللَّهُ ۖ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ  
الْوَعْدَ ۝

۳-۲۲-۲۳  $\frac{۱۱}{۱/۱۳۵}$

سو جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام  
کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار  
کے نور پر چل رہا ہے۔

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ  
لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ  
مِّنْ رَبِّهِ ۖ

۳-۲۴-۲۳  $\frac{۱۲}{۱۹/۴}$

اور آخرت کا عذاب تو اور سخت ہے  
کاش یہ لوگ سمجھ جاتے۔

وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ  
كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

۴-۳۳-۲۳  $\frac{۱۳}{۱۵/۸}$

اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے اور  
(خود بھی) اس کو سچ جانا تو یہی لوگ  
تو پرہیز گار ہیں۔

وَ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْصِّدْقِ  
وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُتَّقُونَ ۝

۴-۳۶-۲۷  $\frac{۱۴}{۲/۲۰-۱/۱۲۰}$

آلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ط  
کیا اللہ اپنے بندہ انصاف کے لیے کافی نہیں۔

۱۵/۲  
۲۲-۳۶-۴

وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَتَمَلَّهٖ مِنْ هَادٍ  
اور جسے اللہ گمراہ کرے اُسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔

۱۶/۳  
۲۲-۳۴-۴

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبَدَأَهُ مِنْ مَقْصِدٍ ط  
اور جسے اللہ ہدایت دے اُسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔

۱۷/۴  
۲۲-۳۴-۴

آلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ  
کیا اللہ زبردست اور انتقام پر قادر نہیں؟

۱۸/۹  
۲۲-۳۸-۴

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ط  
آپ کہہ دیجئے میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔  
سو جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی لیے۔

۱۹/۳  
۲۲-۴۱-۴

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ط

۲۰/۲  
۲۲-۴۱-۴

وَمَنْ ضَلَّ فَاتِّمَّاعِنُ عَلَيْهِ ط  
اور جو کوئی بے راہ ہو گا تو اس کی بے رسی اسی پر پڑے گی۔

۲۱/۳  
۲۲-۴۲-۴

قُلْ إِنَّ الشَّفَاعَةَ لَبِئْسَ مَا كَانَتْ يَفْعَلُ  
آپ کہہ دیجئے۔ سفارش تمام زائفوں کی ہے۔  
انتخاب نہیں ہے۔

جَبِينًا ط

۲۲  
۱۱/۱۳  
۵-۵۲-۲۴

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ط

کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی جس کا  
چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور وہی  
تنگ بھی کر دیتا ہے۔

۲۳  
۱/۸۶-۲/۲۰  
۵-۵۳-۲۴

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ  
أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
لَا تَقْتَدُوا مِن رَّحْمَةِ  
اللَّهِ ط

آپ (میری طرف سے) کہہ دیجئے کہ  
اے میرے بند جو اپنے اوپر زیادتی  
کر چکے اللہ کی رحمت سے مایوس  
مت ہو۔

۲۴  
۳۰/۴  
۶-۶۴-۲۴

قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي  
أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو! کیا پھر بھی  
تم مجھ سے غیر اللہ کی عبادت کرنے کی  
فرمائش کرتے ہو۔

۲۵  
۱/۲۵  
۶-۶۶-۲۴

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ  
قَدْرِهِ ط

اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی  
جیسی عظمت کرنی چاہیے تھی۔

۲۶  
۱/۱۲۲-۴/۸۰-۴/۳  
۸-۶۳-۲۴

سَلَامٌ عَلَيَّ كَمَا طِبْتُمْ  
فَادْخُلُوهَا خِلْدِينَ ۝

سلام علیکم منے میں رہو۔ اس میں ہمیشہ  
کے لیے داخل ہو جاؤ۔

۲۶  
۸/۱۱۳  
۸-۶۴-۲۴

فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ۝

تو غرض کہ عمل کرنے والوں کا کیا اچھا  
انعام ہے۔

## المؤمنین

۱/۶۹-۱/۶۵-۱۹/۶-۱/۶۰-۲۶/۲۲

۱-۳-۲۳

گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے پاس (سب کو) جانا ہے۔

بَغَاظِ الذُّنُوبِ وَتَابِ  
التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ  
ذِي الطَّرَلِ ۝ زَكَرَاتِ  
الرَّاهِرَةِ ۝

۱۰۵-۲۳ ۱۹/۵

سو میری طرف سے آپیں کسی سزا ملی۔

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

۱-۶-۲۳ ۱۹/۳-۱/۶

اسے میرے پروردگار تیرنی رحمت اور علم ہر چیز کو شامل ہے۔

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ  
رَّحْمَةً وَعِلْمًا ۝

۱-۹-۲۳ ۱/۲۱

اور انہیں تکلیفات سے بچائے۔

وَقَرِهَهُ السَّيِّئَاتِ ۝

۱-۹-۲۳ ۱/۲۱

اور تو نے جب کو اس دن کی ترسائی سے بچایا اس پر تو نے (بڑی) مہربانی کی۔

وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ  
فَقَدْ رَحِمْنَا ۝ ۝

۱-۹-۲۳ ۲۱/۱۵

اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

۲-۱۲-۲۳ ۱/۱۶

سو فیصلہ تو اللہ کا ہے جو عالیشان ہے  
بڑے رتبے والا ہے۔

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ  
الْكَبِيرِ ۝

۲-۱۶-۲۴ ۱/۸۹

آج کے روز کی حکومت ہے ہاں بس  
اللہ واحد و غالب ہی کی ہے۔

لِيَمُنَّ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّسُلُ  
بِذَلِكَ الْوَاحِدِ الْغَفَّارِ ۝

۲-۱۶-۲۴ ۲۲/۲۳

آج ہر شخص کو اسکے کئے کا بدلہ دیا جائے  
گا۔

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ  
بِمَا كَسَبَتْ ۝

۲-۱۹-۲۴ ۲۶/۲۶

اللہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور جو  
کچھ سینہ میں چھپا ہوا ہے اسکو بھی۔

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا  
تُرْفِي الصُّدُورُ ۝

۳-۲۱-۲۴ ۱/۱۱۳

اور ان کو کوئی اللہ کے (عذاب سے)  
بچانے والا نہ ہوا۔

وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ  
وَأَقِ ۝

۲-۲۸-۲۴ ۲۳/۳۳

کیا تم ایک مرد کو اس بات پر قتل کر ڈالو  
گے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ  
ہے۔

أَلْقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ  
رَبِّيَ اللَّهُ ۝

۲-۲۸-۲۴ ۱/۳۳

بیشک اللہ ایسے کو راہ (کامیابی) نہیں  
دکھاتا جو حد سے گزر جانے والا ہو  
جھوٹا پاپا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ  
مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝

۲-۳۱-۲۴ ۱/۹۶

اور اللہ بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں  
کرنا چاہتا۔

وَمَا لِلَّهِ يَرْبِدُ ظُلْمًا  
لِّلْعِبَادِ ۝

۱۵  
۸/۱۶ ۲۲-۳۲-۳۷

اے میرے بھائیو! مجھے تمہاری بابت  
پکار کے دن کی طرف سے بھی اندیشہ ہے۔

وَلَيَقَوْمٌ رَّانِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
يَوْمَ التَّنَادِ ۚ

۱۶  
۲۶/۹ ۲۲-۳۱-۵

اے میرے بھائیو یہ کیا ہے کہ میں تو  
تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم  
مجھے دوزخ کی طرف بلا لیتے ہو۔

وَلَيَقَوْمٌ مَّالِي أَدْعُو كُفْرًا  
إِلَى التَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي  
إِلَى التَّيَارِثِ ۚ

۱۷  
۲۲-۳۲-۵

اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد  
کئے ہوئے ہوں۔

وَ أَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى  
اللَّهِ ۝

۱۸  
۱/۶۹ ۲۲-۵۴-۶

سو آپ اللہ کی پناہ لیتے رہیے۔

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۝

۱۹  
۲/۲۸ ۲۲-۵۸-۶

اندھا اور بینا برابر نہیں ہو  
سکتے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ  
الْبَصِيرُ ۚ

۲۰  
۱/۶۱ ۲۲-۶۲-۶

اس کے سوال کوئی خدا نہیں سوچتا کہاں  
بھٹکے جا رہے ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَنَّى  
تُؤَدَّكُونَ ۚ

۲۱  
۱۱/۵ ۲۲-۶۳-۶

سوائے سارے عالم کا پروردگار بڑا  
عالمشان ہے۔

فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ  
الْعَالَمِينَ ۵

۲۲/۱  
۲۲-۶۵-۷

وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی خدا  
نہیں سو تم اسی کو پرکار و خالص اعتقاد  
کر کے۔

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  
فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ  
لَهُ الدِّينَ ۝

۲۳/۱  
۲۳-۶۶-۷

اور مجھ پر حکم ملا ہے کہ میں صرف پروردگار  
عالم کے آگے گروں جھکا دوں۔

وَأُمرْتُ أَنْ أَسْجُدَ لِرَبِّ  
الْعَالَمِينَ ۵

۲۴/۱  
۲۴-۸۲-۷

لیکن ان کی یہ کمائی ان کے کچھ بھی کام  
نہ آئی۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَتَاعُهُمْ  
وَأَنْ يَكْسِبُونَ ۵

## حَمَّ السُّجْدَةِ

۱-۱-۲۳ ۲۲/۵-۱/۸۷

ح۔ مہم (یہ کلام) رحمن و رحیم کی طرف  
سے نازل ہوا ہے۔

حَمِّهِ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ ۝

۱-۳۰-۲۳ ۲۳/۵

یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کر  
بیان کر دی گئی ہیں یعنی فصیح قرآن (جو  
نافع ہے) دانشمند لوگوں کیلئے۔

كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ  
قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ  
يَعْلَمُونَ ۝



۳  
۱/۱۳۳ ۱-۶-۲۳

فَلْإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ  
يُوحَىٰ إِلَىٰ آتَمَاءِ الرَّسُولِ  
إِلَهُ وَاحِدٌ  
آپ کہہ دیجئے میں بھی تم ہی جیسا بڑ  
ہوں (البتہ مجھ پر وحی نازل ہوتی  
ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی  
خدا ہے۔

۲  
۱۳/۲ ۲-۱۰-۲۳

سَوَاءٌ لِّلشَّٰئِئِیْنِ ۝  
پوچھنے والوں کے لیے۔

۵  
۱/۶۹ ۲-۱۱-۲۳

قَالَتَا أَنبِئْنَاكَ بَعْثِنَا  
دوئوں بولے ہم خوشی سے حاضر ہیں۔

۶  
۱/۱۵۳ ۲-۱۵-۲۳

وَكَانُوا بِآيَاتِنَا  
يَجْحَدُونَ ۝  
اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے  
رہے۔

۶  
۲/۱۵-۲۴/۳۲ ۲-۱۶-۲۳

فَاسْتَدْحَبُوا الْعَصَىٰ عَلَى  
الرُّهْدَىٰ  
مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلہ میں  
گمراہی کو پسند کیا۔

۸  
۴/۲ ۳-۲۳-۲۳

فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ  
الْخٰسِرِيْنَ ۝  
اور تم کھالے میں پڑ کر  
رہے۔

۹  
۲۲/۳ ۳-۲۴-۲۳

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا  
اور کافر کہتے ہیں اس قرآن کو  
سنو ہی سنت اور اس کے درمیان نفل

مچا دیا کرو، شاید (اسی طرح) تم غالب  
آ جاؤ۔

الْقُرْآنِ وَالْغَوَارِيهِ  
لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۳-۲۸-۲۳  $\frac{۱۱}{۱۰/۶-۱۰/۶-۱۰/۶}$   
ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ  
الَّذِينَ

یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی یعنی  
دوزخ۔

۳-۳۱-۲۳  $\frac{۱۱}{۱/۱۵}$

ہم تمہارے رفیق تھے دنیوی زندگی  
میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں  
گے۔

نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي  
الْآخِرَةِ ۝

۳-۳۱-۳۲  $\frac{۱۲}{۶/۸}$

اور تمہارے واسطے اس (جنت) میں  
وہ سب کچھ موجود ہے جس کو تمہارا  
جی چاہے اور تمہارے واسطے موجود  
ہے جو کچھ بھی تم مانگو۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا  
نَشْتَهُیْ الْفُسُكُمُ  
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝

۳-۳۲-۲۳  $\frac{۱۳}{۶/۸}$

دیکھ، بطور مہمانی کے (خدا نے) غفور و  
رحیم کی طرف سے۔

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝

۱۰/۱۳ - ۸/۱۴۲ - ۱/۱۴

۵-۳۳-۲۳

اور اس سے بہتر بات کس کی ہے جو  
(دوسروں کو) اللہ کی طرف بلائے اور

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ  
دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ

صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي  
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

۱۵  
۸/۱۴ - ۱۵/۲ - ۲۲ - ۳۵ - ۵

ان خود نیک کرے اور کہے میں تو  
فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

وَمَا يَكْفُرُهَا إِلَّا الَّذِينَ  
صَبَرُوا ۚ وَمَا يُكْفُرُهَا  
إِلَّا ذُرُوعًا عَظِيمَةً

اور یہ بات انہیں لوگوں کو نصیب  
ہوتی ہے جو صبر کرتے رہتے ہیں اور  
اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاب  
نصیب ہوتا ہے۔

۱۶  
۲۹/۳ - ۲۲ - ۲۲ - ۵

فَلْهُوَ الَّذِينَ آمَنُوا  
هُدًى وَنِقْمًا ۙ ط

آپ کہہ دیجئے کہ یہ (قرآن) ایمان  
والوں کیلئے ہدایت و شفا ہے۔

۱۷  
۱/۱۴۲ - ۲۲ - ۲۶ - ۵

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا  
فَلِنَفْسِهِ ۙ

جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے  
نفع کے لیے کرتا ہے۔

۱۸  
۲/۶ - ۲۲ - ۲۶ - ۵

وَمِنْ أَسَاءَ فَعِيْرَكَ ۙ

اور جو کوئی بُرا عمل کرتا ہے ان کا بھی  
وہاں اس پر پڑے گا۔

۱۹  
۱/۱۱۱ - ۲۶/۶ - ۲۵ - ۲۹ - ۶

لَا يَسْتَمُّ إِلَّا نَسَانُ مِنْ  
دَعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ  
مَشَّ الشَّرُّ فَيَبْسُ  
قَنُوط ۙ

انسان کا ترقی کی آرزو سے جی نہیں  
بھرتا اور اگر اسے تکلیف پہنچ جاتی  
ہے تو مایوس و ہراساں ہو جاتا  
ہے۔

۲۰  
۱/۵۱ - ۱/۲۱ - ۱/۳۳ - ۲۵ - ۵۱ - ۶

وَاِذَا آتَيْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ  
 اَعْرَضَ وَنَايِبًا يَنِيۡهٖ  
 وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ  
 فَذُوۡدُعَاۡءٍ عَرِيۡضٍ ۝

اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے اور جب اُسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے :-

۲۱  
 ۲۴/۴-۲۵/۳ ۶-۵۴-۲۵

اَلَا اِنَّهُمْ فِيۡ مِرۡيۡةٍ مِّنۡ لِّقَاۡءِ رَبِّهِمْ ط

یاد رکھو یہ لوگ اپنے پروردگار کے روبرو جانے کی طرف سے شک میں پڑے ہیں

۲۲  
 ۱/۱۲ ۶-۵۴-۲۵

اَلَا اِنَّۤ اٰیٰتِہٖۤ اٰیٰتِۡ بِکُلِّ شَیْءٍ مُّحِیۡطٌ ۝

یاد رکھو وہ ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لے لے ہوئے ہے۔

## الشوریٰ

۱  
 ۱۲/۴ ۱-۲-۲۵

لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ط

اسی (اللہ) کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔

۲  
 ۸/۴ ۱-۲-۲۵

وہُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیۡمُ ۝

اور وہی برتر ہے، عظیم الشان ہے۔

۳  
 ۲۳/۱۵-۸/۴ ۱-۵-۲۵

وَالۡمَلٰٓئِکَةُ یَسۡبِحُوۡنَ بِحَمْدِ رَبِّہِمْ ۔

اور فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد کرتے رہتے ہیں۔

۲۳/۱۵ ۲۵-۵-۱

وَلَيْسَتْ تَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي  
الْأَرْضِ ۝اور اہل زمین کے لیے مغفرت طلب  
کرتے رہتے ہیں۔

۲۶/۲۲ ۲۵-۵-۱

الْأَيُّهَا اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  
الرَّحِيمُ ۝یاد رکھو اللہ ہی بڑا مغفرت کرنے والا  
ہے۔ بڑا رحیم ہے۔

۱/۱۳۲ ۲۵-۶-۱

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ  
قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ  
أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا  
وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ  
ذَيْبٍ فِيهِ ۝اور آپ پر اسی طرح یہ قرآن عربی میں  
وحی کیا تاکہ آپ مکہ والوں کو اور ان  
کو جو آس پاس رہتے ہیں جمع ہونے  
کے دن سے ڈرائیں۔ جس میں ذرا  
شک نہیں۔

۲۲/۲۳ ۲۵-۶-۱

قَرِيْقٌ فِي الْبَحْتَةِ وَفَرِيْقٌ  
فِي السَّعْبِ ۝ایک گروہ جنت میں (داخل) اور  
ایک گروہ دوزخ میں۔

۱۳/۶ ۲۵-۱۱-۲

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

وہی پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔

۱/۱۱۰ ۲۵-۱۲-۲

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝

کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔

۱/۳۶ ۲۵-۱۲-۲

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ

اسی کے اختیار میں آسمانوں اور زمین

وَالْأَرْضِ ۚ

کی کنجیاں ہیں۔

۱۱  
۲-۱۲-۲۵ ۱۱/۱۳

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

وہ جسے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے

اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔

وَيَقْدِرُ ۝

۱۲  
۲-۱۳-۲۵ ۱۲/۱۳

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا

یعنی یہ کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس

میں تفرقہ نہ ڈالنا۔

فِيهِ ۝

۱۳  
۲-۱۳-۲۵ ۱۳/۱۴

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ

اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے

اور اپنی طرف رسائی دیتا ہے بہر شخص

کو جو (اسکی طرف) رجوع کرے۔

يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ

يُنِيبُ ۝

۱۴  
۲-۱۵-۲۵ ۱۴/۲

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۝

اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔

۱۵  
۲-۱۵-۲۵ ۱۵/۲۳

نَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے

لیے تمہارے عمل۔

أَعْمَالِكُمْ ۝

۱۶  
۳-۱۵-۲۵ ۱۶/۵

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۝

ہماری تمہاری کوئی بحث نہیں۔

۱۷  
۲۲/۲۳

اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۝

اللہ ہم سب کو جمع کرے گا۔

۱۸  
۳-۱۵-۲۵ ۱۸/۲۳

وَالْيَهُ الْمَصِيرُ ط

اور اسی کے پاس جانا ہے

۱۹  
۲-۱۹-۲۵  
۱/۱۳اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ  
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ  
الْعَزِيزُ عاللہ اپنے بندوں کے بارے میں  
خوب باخبر ہے جسکو چاہتا ہے روزی دیتا ہے  
اور وہ بڑا قوی و اللہ ہے۔ بڑا زبردست ہے۲۰  
۳-۲۰-۲۵  
۱/۱۶مَنْ كَانَ يُرِيدَ حَرْثَ  
الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي  
حَرْثِهِ ج وَ مَنْ كَانَ  
يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا  
نُؤْتِهِ مِنْهَا لَ وَ مَا  
لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
نَصِيبٍ ؕجو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب  
ہے ہم اُسے اُس کھیتی میں  
ترقی دیں گے اور جو کوئی دنیا  
کی کھیتی کا طالب ہے ہم اُسے  
کچھ دنیا میں سے دیں گے اور  
آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ  
ہوگا۔۲۱  
۳-۲۲-۲۵  
۱/۱۷ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
الْكَبِيرُ ؕبس یہی تو بڑا انعام  
ہے۔۲۲  
۳-۲۳-۲۵  
۱/۱۸لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ  
أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي  
الْقُرْبَى طمیں تم سے کوئی معاوضہ طلب  
نہیں کرتا۔ ہاں رشتہ داری کی  
محبت ہو۔۲۳  
۳-۲۴-۲۵  
۱/۱۹

اور اللہ باطل کو مٹایا کرتا ہے اور حق کو  
اپنے احکام سے ثابت کیا کرتا ہے۔

وَيَذَرُ اللَّهُ الْبَاطِلَ  
وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

۲۲/۱۶  
۲۵-۲۵-۳

اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ  
قبول کرتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ  
عَنْ عِبَادِهِ -

۲۵/۱۹  
۲۵-۲۵-۳

اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جو  
کچھ تم کرتے ہو وہ اس سب کو جانتا ہے۔  
اور انکو اپنے فضل سے اور بڑھاتا رہتا ہے۔

وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَ  
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ  
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط

۲۴/۲۰  
۲۵-۲۸-۳

اور وہ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس  
ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور  
اپنی رحمت کو برساتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ  
مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ  
رَحْمَتَهُ ط

۲۸/۲۲  
۲۵-۳۰-۲

اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ  
تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے سے  
پہنچتی ہے، اور اللہ بہت سے تو  
درگزر کرتا ہے۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ  
فِيهَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ وَ  
يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

۲۹/۱۳  
۲۵-۲۱-۲

اور تم زمین کے کسی حصہ میں بھی  
ہر نہیں سکتے۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ  
فِي الْأَرْضِ ط



۳۰  
۲-۳۱-۲۵  
۱/۱۱۴

اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی بھی نہ کار ساز  
ہے نہ مددگار۔

وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ  
مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

۳۱  
۲-۳۶-۲۵  
۱/۱۱۹

اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہتر ہی ہے  
اور پائدار تر بھی۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ  
وَأَبْقَىٰ -

۳۲  
۲-۳۸-۲۵  
۲۶/۲۰

اور ان کا (یہ اہم) کام باہمی مشورے  
ہوتا ہے۔

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ  
بَيْنَهُمْ

۳۳  
۲-۳۸-۲۵  
۱/۱۵۳

اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے  
اُس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

۳۴  
۳-۳۰-۲۵  
۲/۱

اور برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی  
ہی۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ  
مِّثْلُهَا

۳۵  
۲-۳۰-۲۵  
۱۹/۱۴

اور جو کوئی معاف کر دے اور اس کا  
کئے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ رہا۔

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ  
عَلَى اللَّهِ

۳۶  
۲-۳۱-۲۵  
۲/۱۰

اور جو اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد  
بدلہ (برابر کا) کے لیے سوائے لوگوں  
پر کوئی اِزام نہیں۔

وَلَكِنِ انْتَصَرَ بِعَدَا  
ظَنِيمٍ فَأُولَٰئِكَ مَا وَعَدْنَاهُمْ  
مِّن سَبِيلٍ

۳۶  
۲۶/۲۲-۱۵/۶  
۲-۲۳-۲۵

وَلَكِنَّ صَبْرًا وَعَفْوَ إِنَّ  
ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ  
الْمُؤْمِرِ ۝

اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر  
دے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں  
میں سے ہے۔

۳۸  
۲/۵  
۵-۳۸-۲۵

إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ط

آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔

۳۹  
۱/۱۵۱  
۵-۳۸-۲۵

وَأَنَّ مَصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا  
فَعَلُوا قَدْ مَاتَ آيِدِيهِمْ  
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ  
كَفُورٌ ۝

اور اگر ایسے لوگوں پر کوئی مصیبت  
اُپڑتی ہے اُن کے کرتوتوں کے بدلہ  
میں جو وہ پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے  
ہیں تو انسان ناشکری کرنے لگتا  
ہے۔

۴۰  
۱/۱۹۸  
۵-۵۰-۲۵

إِنَّهُ عَلَيْكُمْ قَدِيرٌ ۝

بیشک وہ بڑا علم والا ہے بڑا قدرت  
والا ہے۔

۴۱  
۲/۵  
۵-۵۲-۲۵

وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ ۝

اور اسی میں کوئی شک نہیں کہ آپ  
راہِ راست ہی کی ہدایت کر رہے ہیں۔

## الزَّخْرَفُ

۱-۳۳-۲۵  
۲۲/۵

إِنَّا جَعَلْنَا هَؤُلَاءِ أُمَّةً رَابِعًا

ہم نے انکو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

تا کہ تم ان خوب سمجھ جاؤ۔

۱۱۳۵ ۲۵ - ۱ - ۱

وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۝

اور پہلے لوگوں کے قصبات گزر چکی ہے

۱۳۷۲ ۳ - ۱۰ - ۲۵

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو

الْأَرْضَ مَهْدًا ۖ جَعَلَ

فرش بنایا اور اس میں اُس نے تمہارے

لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ

لیے راستے بنا دیئے تاکہ تم راہ پاتے

تَهْتَدُونَ ۝

رہو۔

۱۰۱۲ ۲۵ - ۱۳ - ۱۲

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا

پاک ذات ہے وہ جس نے ہمارے

هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ ۝

تابع کر دیا اس (سواری) کو اور ہم تو

وَمَا تَأْتِي رَبَّنَا إِلَّا نُنْقَلِبُونَ ۝

ایسے نہیں کہ اس کو قابو میں کر لیتے

اور ہم کو تو اپنے پروردگار ہی کی طرف

لوٹنا ہے۔

۱۱۵۱ ۲۵ - ۱۵ - ۱

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

بیشک انسان کھٹلا ہوا ناشکر

مُبِينٌ ۝

ہے۔

۱۱۲۱ ۲۵ - ۲۲ - ۲

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ

ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص

أُمَّةٍ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ

طریقہ پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقش

مُهْتَدُونَ ۝

قدم پر قدم رکھ رہے ہیں۔

۱۱۲۱ ۲۵ - ۳۳ - ۲

وَاِنَّا عَلٰى اَثَرِهِمْ  
مُقْتَدُونَ ۝

اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چلنے  
والے ہیں۔

۱۳/۴ ۲۵ - ۳۰ - ۳

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ  
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ  
كَافِرُونَ ۝

اور جب ان کے پاس (کلام حق) آگیا  
تو وہ بولے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس  
کے منکر ہیں۔

۱۸/۹ ۲۵ - ۳۲ - ۳

وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
يَجْمَعُونَ ۝

اور آپ کے پروردگار کی رحمت اس  
سے (کہیں) بہتر ہے جسے یہ لوگ  
سمیٹتے رہتے ہیں۔

۱۹/۱۲ ۲۵ - ۳۶ - ۲

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ  
الرَّحْمٰنِ نُفِیْضٌ لَّهٗ  
شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِیْنٌ ۝

اور جو کوئی بھی (خلائے) رحمن کی نصیحت  
کی طرف سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک  
شیطان مسلط کر دیتے ہیں سو وہ اس کیساتھ رہتا ہے

۲۵ - ۴۳ - ۲

اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝

آپ بیشک سیدھے راستے پر ہیں۔

۱۲/۱۵ ۲۵ - ۵۱ - ۵

اَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

کیا تم (سب) یہ نہیں دیکھتے ہو۔

۱۳/۱۵۶ ۲۵ - ۵۲ - ۵

وَلَا يَكَاذِبُیْنٌ ۝

اور بولنا تک اسے نہیں آتا۔

۱۲/۱۳۵ ۲۵ - ۵۶ - ۵

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا  
لِّلَّذٰخِرِيْنَ ۝

تو ہم نے انہیں پھلوں کے حق میں (ایک  
خاص قسم کا) پیشرو اور نمونہ (عبثت بنا دیا،

۱۵  
۲۲/۲۱ ۶-۵۸-۲۵

بَلْ هُمْ قَوْمٌ خٰصِمُوْنَ ۝

اصل یہ ہے کہ یہ لوگ میں ہی جھگڑالو۔

۱۶  
۱۱/۲ ۶-۶۲-۲۵

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ  
فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ  
مُّسْتَقِيْمٌ ۝

بیشک اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور  
تمہارا بھی پروردگار ہے، اسی کی عبادت  
کو، یہی سیدھی راہ ہے۔

۱۷  
۱۱/۱۳ ۶-۶۵-۲۵

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ

پھر بھی (مختلف) گروہوں نے آپس میں  
اختلاف ڈال لیا۔

۱۸  
۶/۸ ۶-۷۰-۲۵

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ  
اَزْوَاجُكُمْ تَحْبِرُوْنَ ۝

تم اور تمہاری بیویاں خوش خوش جنت  
میں جا داخل ہو۔

۱۹  
۶/۸ ۶-۷۱-۲۵

وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ  
الْاَنْفُسُ وَتَكْتُرُ  
الْاَعْيُنُ ۝

اور وہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کا  
جی چاہے گا اور جس سے آنکھوں کو  
لذت ملے گی۔

۲۰  
۶/۸ ۶-۷۲-۲۵

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي  
اُوْرِثْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ

اور یہی وہ جنت ہے جس کے اپنے  
اعمال کے عوض میں تم مالک بنا دیے

گئے ہو۔

تَعْمَلُونَ ۵

۲۱  
۲۳/۳۳ - ۲۵ - ۷۹ - ۷

تو کیا انھوں نے کوئی انتظام کر رکھا ہے؛  
ہاں تو ہم نے بھی انتظام کر رکھا ہے۔

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَاِتَا  
مُبْرَمُونَ ۵

۲۲  
۱۱/۶ - ۱۱/۳۳ - ۲۵ - ۸۲ - ۷

پاک ہے آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار  
عرش کا پروردگار، ان چیزوں سے جو  
یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ  
وَ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ  
عَمَّا يَصِفُوْنَ ۵

۲۳  
۱۲/۶ - ۲۵ - ۸۳ - ۷

اور وہ وہی ذات ہے جو آسمانوں میں بھی  
خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلٰهُ  
وَفِي الْاَرْضِ اِلٰهُ ط

۲۴  
۲۲/۳۳ - ۲۵ - ۸۵ - ۷

اور اسی کو قیامت کی خبر ہے۔

وَ عِنْدَهَا عِلْمُ السَّاعَةِ ط

۲۵  
۳/۵ - ۲۵ - ۸۹ - ۷

تو آپ ان سے بے رخ رہیں اور  
کہہ دیجئے کہ (تم کو) سلام۔

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ  
سَلٰمٌ

## الدُّبْحَانُ ۲۴

۱  
۲۵/۱۱ - ۲۵ - ۳ - ۱

کہہ نے اسی کو ایک برکت والی حالت

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ

میں آتا رہے۔ دکیوں کو ہم د بندوں  
کو خبردار کر دینے والے تھے۔

اس رات میں بر حکمت والا معاملہ ہماری  
پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے۔

یہ سبب ال رحمت کے جو آپ کے  
پروردگار کی طرف سے ہے۔

کوئی خدا اس کے سوا نہیں وہی جلاتا ہے  
وہی مارتا ہے۔

پروردگار تمہارا بھی ہے اور پروردگار تمہارا  
لگے باپ داداوں کا بھی ہے۔

لیکن یہ لوگ تو شک میں پڑے کھیل  
میں لگے ہوئے ہیں۔

ہم سے اس عذاب کو دور کر دیجئے ہم  
ضرور ایمان لے آئیں گے۔

میں پناہ چاہتا ہوں اپنے پروردگار  
اور تمہارے پروردگار کی اس سے کہ  
تم مجھے سنگسار کرو۔

مُبْرَكَةٌ اِثْنَا كِتَا  
مُنْذِرِينَ ۝

۲۵/۱۱ ۲۵-۲۲-۱

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ ۝

۳۱/۸۲ ۲۵-۶-۱

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۝

۴۱/۲۲ ۲۵-۸-۱

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ  
يُمِيتُ

۵۱/۸ ۲۵-۸-۱

رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاءِكُمْ  
الْاَوَّلِينَ ۝

۶۲/۹ ۲۵-۹-۱

بَلْ هُم فِي شَكٍّ  
يَلْعَبُونَ ۝

۷۱/۲۱ ۲۵-۱۲-۱

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ  
اِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝

۸۱/۹۱ ۲۵-۲۰-۱

اِنِّي عَدْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ  
اَنْ تَرْجِمُوْنِ

۹  
۲۵-۲۵-۱كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّةٍ  
وَعُيُونٍ ۝

وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے

۱۰  
۲۴-۲۵-۱

وَسَارُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝

اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات۔

۱۱  
۲۴-۲۵-۱وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا  
فَكَرِهِينَ ۝اور آرام کے سامان جن میں رہا کرتے  
تھے۔ چھوڑ گئے۔۱۲  
۲۸-۲۵-۱كَذَلِكَ قَفَّ وَأُورَثْنَهَا  
قَوْمًا آخَرِينَ ۝دیہ قصہ، اسی طرح واقع ہوا اور ہم  
نے ان (چیزوں) کا مالک ایک دوسری  
قوم کو بنا دیا۔۱۳  
۲۹-۲۵-۱فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ  
وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا  
مُنظَرِينَ ۝تو ان پر نہ تو آسمان اور زمین  
روئے، اور نہ انہیں مہلت ہی  
ملی۔۱۴  
۲۱-۲۵-۲يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْتِي  
عَنْ مَوْتِي نَيْتًا وَلَا هُمْ  
يُنصَرُونَ ۝جس دن کوئی تعلق والا کسی  
تعلق والے کے کام نہ آئے  
گا اور نہ ان کی حمایت ہی کی  
جائے گی۔



۱۵  
۲-۴۲-۲۵

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ

ہاں مگر اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے

۱۶  
۲-۵۱-۲۵إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ  
أَمِينٍ ۝اللہ سے ڈرنے والے بیشک ان  
کی جگہ میں ہوں گے۔۱۷  
۳-۵۲-۲۵

فِي جَنَّةٍ وَعُيُونٍ ۝

(یعنی) باغوں اور نہروں میں۔

۱۸  
۳-۵۲-۲۵يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ  
وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَبِّلِينَ ۝ہاں پہنے ہوں گے باریک اور بیزرشم  
کا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔۱۹  
۳-۵۳-۲۵كَذَلِكَ قَفٌّ وَنَزْوٌ جَزَاهُمْ  
بِحُورٍ عِينٍ ۝یہ بات اسی طرح ہے اور ہم انکی زوجیت  
میں دے دیں گے گوری گوری بڑی  
آنکھوں والیوں کو۔۲۰  
۳-۵۵-۲۵يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ  
فَاكِهَةٍ ۝وہ وہاں ہر قسم کے میوے منگائیں  
گے اطمینان سے۔۲۱  
۳-۵۶-۲۵

فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ ۝

(یہ سب) آپ کے پروردگار کے  
کے فضل سے ہوگا۔۲۲  
۳-۵۸-۲۵

فَاتِمَا يَسْتَرْهٖ بِلسَانِكَ  
سو ہم نے اس (قرآن) کو اپنی زبان میں اُرا  
لَعَدَّهٗم يَتَذَكَّرُوْنَ ۝  
کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔

## الْجَانِيَةِ

۱-۳-۲۵ ۱  
۱۲/۶

رَانَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  
بیشک آسمانوں اور زمین نشانیوں میں اہل  
لَا يٰٓتِ لِمُؤْمِنِيْنَ ۝  
ایمان کے لیے۔

۱-۶-۲۵ ۲  
۱۷/۳

فَبَاۤتِيَ حَدِيۡتٍ ۚ بَعْدَ اللّٰهِ  
تو پھر اللہ اور اس کی نشانیوں کے  
وَآيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝  
سوا اور کون سی بات ہوگی جس پر یہ  
لوگ ایمان لائیں گے۔

۱-۷-۲۵ ۳  
۶/۱۴

وَيٰٓسَ لِكُلِّ اَقۡبَالٍ اٰثِمِهٖ  
بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے  
جوجھوٹ لگانے والا ہے۔

۲-۱۲-۲۵ ۴  
۲/۱۱

اِنَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ  
اللّٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ  
الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلُكُ فِيْهِ  
سمندر کو مسخر بنایا تاکہ اس میں اس کے حکم  
سے کشتیاں چلیں۔

۲-۱۲-۱۵ ۵  
۱۳/۱

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ  
اور تاکہ اس کی (دی ہوئی) روزی

وَلَعَنَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝  
تلاش کرو اور تاکر تم شکر  
کرو۔

۲-۱۸-۲۵ ۴/۱۳

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ  
مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا۔  
پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص  
طریقہ پر کر دیا، تو آپ اسی پر چلئے

۲-۱۹-۲۵ ۶/۱۳

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝  
اور پرہیزگاروں کا دوست تو اللہ ہے۔

۲-۲۰-۲۵ ۸/۱۵

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ  
يُؤْقِنُونَ ۝  
یہ دقراں، لوگوں کے لیے دانشمنیوں  
(کا سبب) اور ہدایت (کا ذریعہ) ہے  
اور یقین لانے والوں کیلئے بڑی رحمت ہے

۳-۲۲-۲۵ ۹/۱۳

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ  
وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ  
بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ ۝  
اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت  
کے ساتھ پیدا کیا ہے۔  
اور تاکر ہر شخص کو اس کے کیے کا  
بدلہ دیا جائے اور ان پر ذرا ظلم نہ کیا  
جائے گا۔

۳-۲۳-۲۲-۲۵ ۱۱/۸

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ  
الرِّيحَ هُوًا لَّهُ۔  
سو کیا آپ نے اس کی بھی حالت دیکھی  
ہے جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا  
بنا رکھا ہے۔

۱۱  
۲۵-۲۶-۲۷

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ  
يَوْمَئِذٍ يَخْسِرُ الْمُبِطُونَ

اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس  
روز اہل باطل بڑے خسارہ میں ہوں  
گے۔

۱۲  
۲۵-۲۹-۳۰

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ  
بِالْحَقِّ ط

یہ ہمارا رسٹر ہے جو تمہارے حق میں  
ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔

۱۳  
۲۵-۲۹-۳۰

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِئُ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ط

تم جو کچھ بھی کرتے رہتے تھے ہم رب  
لکھواتے جاتے تھے۔

۱۴  
۲۵-۳۶-۳۷

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ  
وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ۝

خوبیاں (رب کی سب) اللہ ہی کے  
لیے ہیں (جو) آسمانوں کا پروردگار ہے  
سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

۱۵  
۲۵-۳۴-۳۵

وَلَهُ الْكِبْرُ بِأَعْيُنِنَا  
وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

بس اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں  
بڑائی ہے۔

## ۳۶ الاحقاف

۱  
۲۴-۲۷-۲۸

إِنِّي بَيْنَ يَدَيْكَ  
مِرْسِيٌّ ط

میرے پاس کوئی کتاب لاؤ جو اس سے

پہلے کی ہو یا کوئی مضمون منقول (معتبر)  
لاؤ اگر تم سچے ہو۔

.....

قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ  
عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ  
صَادِقِينَ ۝

۲/۱۳۷ - ۲۶ - ۶ - ۱

تو جو لوگ کافر ہیں وہ اس سچائی کی بابت  
جب وہ ان تک پہنچتی ہے تو کہتے ہیں  
یہ صریح جادو ہے۔

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُذْخِرْ  
لَنَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ  
قُبَيْرٌ

۳/۱۳۸ - ۲۶ - ۸ - ۱

وہی میرے اور تمہارے درمیان کافی  
گواہ ہے۔

كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ  
بَيْنَكُمْ ۝

۴/۱۵۳ - ۲۶ - ۱۱ - ۲

کہنے لگتے ہیں کہ یہ وہی پُرانا جھوٹ  
ہے۔

فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ  
قَدِيمٌ ۝

۵/۱۱۲ - ۲۶ - ۱۳ - ۲

بن لوگوں نے کہا کہ جہاں پر ورد کار اللہ  
ہے پھر اس پر قائم رہے سو ان لوگوں  
پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین  
ہوں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا  
اللَّهُ ثُمَّ اسْتَنَقَمُوا فَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ۝

۶/۲۸۴ - ۲۶ - ۱۵ - ۲

اور ہم نے انسان کو نیک و نیک کہ اپنے  
والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ  
إِحْسَانًا ۝

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  
كُرْهًا ط  
اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت  
کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی  
مشقت کے ساتھ جنا۔

۲-۱۵-۲۶ ۱/۱۴۲

وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا  
تَرْضَاهُ۔  
اور اس پر کہ میں نیک عمل کرتا ہوں  
کہ تو خوش ہو۔

۲-۱۵-۲۶ ۱/۲۱

وَ اَصْدَحْ لِي فِي  
ذُرِّيَّتِي ط ج  
اور میری اولاد میں بھی میرے لیے نصیحت  
پیدا کر دے۔

۲-۱۵-۲۶ ۳/۱۴

اِنِّي تَبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي  
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۵  
میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، اور  
میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

۲-۱۶-۲۶ ۱/۲۹

مَا هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ  
الْاَوَّلِيْنَ  
دیکھا ہے یہ تو بس اگلوں کے ڈھکوسلے  
ہیں

۳-۲۱-۲۶ ۲۸/۴

اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ  
يَوْمٍ عَظِيمٍ ۵  
مجھے تمہارے لیے اندیشہ ایک بڑے  
(سخت) دن کے عذاب کا ہے۔

۳-۲۳-۲۶ ۴/۱۹

وَ لِكَيْ اَرَاكُمْ قَوْمًا  
تَجْهَلُونَ  
البتہ تمہیں کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بڑی  
جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔

۱۳  
۳۳۳/۱ ۲۶-۲۶-۳۰

اور وہیں (غذاب) کی ہنسی کیا کرتے  
تھے اسی لئے ان کو اگھیرا۔

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ  
يَسْتَكْبِرُونَ ۝

۱۲  
۲۲/۲۰ ۲۶-۳۰-۳۰

کہنے لگے اے ہماری قوم والو ہم ایک  
کتاب کن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد  
نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی  
کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔

قَالُوا يَقَوْمِ اِنَّ اِنَّا سَمِعْنَا  
كِتٰبًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى  
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ  
يَدٰىهِ ۝

۱۵  
۲۲/۵ ۲۶-۳۰-۳۰

اور حق اور  
راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَ  
اِلَى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

۱۶  
۲۲/۲۰ ۲۶-۳۱-۲۶

سے ہماری قوم، اولاد، مال و اثاث کی حالت  
بگائے اسے کا اور ان پر ایمان لے لیا ان  
شہادت کے بعد اوتار دے گا اور تمہیں  
مہمہ نظر رکھے گا غذاب اور ناک پستہ۔

يَقَوْمِمْ اٰجِبِيْبُوْا دَرَجٰتِ  
اِلٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يُغْفِرْ  
لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيَجْزٰكُمْ  
مِّنْ غٰذٰبِ اِلَيْهِمْ ۝

مُحَمَّدٌ

۱  
۳۳۳/۱ ۲۶-۲۶-۳۰

اور تمہیں ان ایمان لائے اور ان کے

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

نے نیک عمل بھی کیے اور اسی پر (سب) ایمان لائے جو محمدؐ پر نازل کیا گیا۔ اور وہ امر حق اُن کے پروردگار کی طرف سے ہے اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ ان کی طرف سے کرے گا اور اُنکی حالت درست رکھے گا۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ  
آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ  
مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ  
رَبِّهِمْ لَا كُفْرَ عَنْهُمْ  
سَيِّئَاتِهِمْ وَ أَصْدَحَ  
بِالرَّهْمِ۔

۱/۱۳۵ ۲۶-۳-۱

اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان کرتا ہے۔

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ  
أَمْثَالَهُمْ ۝

۱/۱۳۶ ۲۶-۵-۱

اللہ انہیں سنبھالے رہے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا۔

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ  
بِالرَّهْمِ ۝

۱/۱۱۷ ۲۶-۶-۱

اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور وہ تمہارے قدم جماوے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن  
تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ  
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔

۲۹/۸ ۲۶-۱۰-۱

اللہ نے انہیں ہلاک کر مارا اور (ان) کافروں کیلئے بھی ایسے ہی (معاملات) ہونے کو ہیں

وَمَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ زُلُفًا لِّلْكَافِرِينَ  
أَمْثَالَهَا ۝

۲۳/۲ ۲۶-۱۱-۱



اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں

وَأَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى

لَهُمْ ۝

.....

۲-۱۳-۲۶  $\frac{۷}{۱۳۲/۸}$

اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جو قوت

وَكَأَيِّنْ مِنْ

میں آپ کی اس بستی سے بڑھی ہوئی

قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ

تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ

قُوَّةً مِنْ قَرِيْبِكَ

کو دوہاں سے نکالا، ہم نے انہیں

الَّتِي اَخْرَجْتِكَ ۝

ہلاک کر دیا، اور کوئی ان کا مددگار نہ

اَفَقَدْتَهُمْ فَلَا نٰصِرَ

ہوا۔

لَهُمْ ۝

۲-۱۵-۲۶  $\frac{۸}{۶/۸}$

جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا

مَنْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَا

ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ۔

الْمُتَّقِيْنَ ۝

۲-۱۵-۲۶  $\frac{۹}{۲۶/۳۱-۶/۸}$

اس میں نہریں متغیر نہ ہونے والے

فِيْهَا اَنْهٰرٌ مِنْ مَّاءٍ

پانی کی ہوں گی اور نہریں ذائقہ

غَيْرِ اَسِيْنٍ ۝ وَاَنْهٰرٌ

نہ بدلنے والے دودھ کی ہوں

مِنْ لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ

کی اور نہریں پینے والوں کے لیے

طَعْمُهُ ۝ وَاَنْهٰرٌ مِنْ

نوش ذائقہ شراب کی ہوں گی

خَيْرٍ لَّذِيْ لِّلشَّرْبِ اِنَّهٗ

اور نہریں صاف شہد کی ہوں

وَ اَنْهٰرٌ مِنْ عَسَلٍ

گی۔

مُصَفًّی ۝

۲-۱۵-۲۶  $\frac{۱۰}{۱۰}$

اور وہاں اُن کے لیے ہر قسم کے پھل  
ہوں گے اور ان کے پروردگار کی  
طرف سے بخشش ہوگی۔

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
الشَّجَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِمْ

۲۹/۳ ۲۶-۱۴-۲

اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ انہیں اور  
زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں تقویٰ  
کی توفیق دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ  
هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

۲۶-۱۹-۲۶ ۱۲/۸

تو آپ اس کا یقین رکھئے کہ بجز اللہ  
کے کوئی معبود نہیں۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ

۳-۲۲-۲۶ ۳/۱۳-۲۲/۵

تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے  
یادلوں پر قفل لگ رہے ہیں۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ  
أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

۱۳/۱۳۸ ۲۶-۲۳-۳

اے ایمان والو! اطاعت کرو  
اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی  
اپنے اعمال کو رائے گال مت  
کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا  
أَعْمَالَكُمْ

۱۵/۱۶۱ ۲۶-۳۵-۲

اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔  
اور وہ تمہارے اعمال (کے اجر) میں

وَاللَّهُ مَعَكُمْ  
وَلَن يَبْزِلَكُمْ

اعْتَمِلْكُمْ ۵

ہرگز کمی ذکرے گا۔

۱۶/۹ - ۲۶ - ۲۶ - ۲۶

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

(یہ) دنیوی زندگی تو محض ایک کھیل

لَعِبٌ وَ لَهْوٌ ۵

اور تماشہ ہے۔

۱۶/۵ - ۲۶ - ۲۸ - ۲۶

وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ

اور جو کوئی نخل کرتا ہے وہ (در حقیقت)

عَنْ نَفْسِهِ ۵ وَاللَّهُ الْغَفِيُّ

خود اپنے سے نخل کرتا ہے اور اللہ تو کسی کا

وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۶

محتاج نہیں بلکہ تم (سب) اسکے محتاج ہو۔

۱۸

۱۲/۹ - ۱/۱۴ - ۱/۱۵ - ۱/۱۱۰ - ۱/۱۱۲

۲۶ - ۳۸ - ۲۶

وَإِنْ تَوَلَّوْا لَيْسَ مَبْدِلُ

اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ

قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَتَكُنَّ لَكُمْ

تہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا

أُمَّةً لَكُمْ ۴

پھر وہ تم جیسے نہ ہو گی۔

## الف ۴۵

۱/۱۴۳ - ۲۶ - ۱ - ۱

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا

اور بیشک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا

مُبِينًا ۴

فتح دیا۔

۲/۱۴۳ - ۲۶ - ۳ - ۱

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا

اور اللہ آپ کو باعزت غالب

عَزِيزًا ۵

۵۔

۳/۱۱ ۱-۲-۲۶

وَاللّٰهُ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ  
وَالْاَرْضِ طاور اللہ ہی کی ملک آسمانوں اور زمین  
کے لشکر ہیں۔

۲/۱۵ ۱-۵-۲۶

وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا  
عَظِيْمًا ۵اور یہی اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی  
ہے۔

۵/۱۱۳۳ ۱-۸-۲۶

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ  
شَٰهِيْدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ  
نَذِيْرًا ۵بیشک ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت  
دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا  
ہے۔

۶/۱۱۳۳ ۱-۹-۲۶

لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ  
وَتَعَزَّزُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ط  
وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ  
اَصِيْلًا ۵دائے تاکر تم لوگ اللہ اور اس کے  
رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو  
اور اس کی تعظیم کرو۔ اور صبح و شام اسکی  
تسبیح میں لگے رہو۔

۷/۱۱۳۳ ۱-۱۰-۲۶

فَمَنْ تَكَفَّرَ فَاِنَّهَا يَنْكُثُ  
عَلٰى نَفْسِهٖ ۷ وَّمَنْ اٰوَدٰى  
بِمٰنٰهَدَا عَلَيْهِ اللّٰهُ  
فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًاسو جو کوئی عہد توڑے گا تو اس کے عہد  
توڑنے کا وبال اس پر پڑے گا۔ اور  
جو کوئی اس چیز کو پورا کرے گا جس کا  
اُس نے اللہ سے عہد کیا ہے تو اللہ

عَظِيمًا ۳

اُسے عنقریب بڑا اجر دے گا۔

۲۱/۱ ۲۶-۱۱-۲

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا

یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے

لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ط

میں جو انکے دلوں میں نہیں ہیں

۲۲/۱ ۲۶-۱۴-۲

فَإِنْ تَطِيعُوا يُتَّكَمُ لَهُ

سو اگر تم (اے اللہ) وقت بوقت جبارانہ

أَجْرًا حَسَنًا ۷

اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں نیک

عوض دے گا۔

۱۸-۱۲-۹۴-۲۹-۲۶-۱۸

۲۶-۱۸ (ب) ۲

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ

بیشک اللہ خوش ہوا ان مسلمانوں

الْمُؤْمِنِينَ

سے۔

۱۲/۱ ۲۶-۱۸ (د) ۲

إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ

جب وہ آپ سے بیعت کرتے

الشَّجَرَةِ فَعَبَّوْهُمَا فِي

تھے درخت کے نیچے اور اللہ کو معلوم

قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ

تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، سو اللہ

عَلَيْهِمْ وَأَنْشَأَ لَهُمْ فِي

نے ان میں اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو

قَرِيبًا ۱۱

نیک اور فتح بھی دے دی۔

۱۲/۱ ۲۶-۲۰-۳

وَلِتَكُونَ آيَةً

اور تاکرا اہل ایمان کے لیے ایک نشانہ

لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ

جو جائے اور تاکرا تم کو ایک سیدھی

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

راہ پر ڈال دے۔

۱۳  
۱۳/۱۳ ۲۶-۲۳-۳۰سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ  
مِنْ قَبْلِ ۝اللہ نے یہی دستور رکھا ہے جو پہلے  
سے چلا آ رہا ہے۔— وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ  
تَبْدِيلًا ۝اور اللہ کے دستور میں کوئی رد و بدل  
نہ پائیں گے۔۱۴  
۱/۸۶ ۲۶-۲۵-۳۰لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ  
مَنْ يَشَاءُ ۝تا کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے  
جسکو چاہے۔۱۵  
۱۳/۱۰-۱/۱۶۲-۱/۱۴۴

۲۶-۲۶-۳۰

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ  
عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ ۝لیکن اللہ نے اپنی طرف سے  
تھم لاپنے رسول اور مومنین کو  
عطا کیا۔۱۶  
۱۱/۱۰ ۲۶-۲۸-۲۷لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ  
كُلِّهِ ۝تا کہ اس کو تمام دینیوں پر غالب کر  
دے۔۱۷  
۱/۱۴۱-۱/۱۴۴ ۲۶-۲۹-۳۰مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
مَعَهُ ۝محمدؐ، اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان  
کے ساتھ ہیں۔۱۸  
۱/۴۱ ۲۶-۲۹-۳۰

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

وہ تیز ہیں کافروں کے مقابلہ میں۔

۱۹  
۲۶-۲۹-۲۷  
۱/۳۱

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

(اور) مہربان ہیں آپس میں۔

۲۰  
۲۶-۲۹-۲۷  
۱/۳۱

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

تو انہیں دیکھئے گا (اے مخاطب) کہ کبھی

رکوع کر رہے ہیں (کبھی) سجدہ کر رہے ہیں

۲۱  
۲۶-۲۹-۲۷  
۱/۳۱

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ

اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو

میں لگے ہوئے ہیں۔

وَرِضْوَانًا

۲۲  
۲۶-۲۹-۲۷  
۱/۳۱

سِبْبًا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ

ان کے آثارِ سجدہ کی تاثیر سے ان کے

چہروں پر نمایاں ہیں۔

مِنَ آثَرِ السُّجُودِ

۲۳  
۲۶-۲۹-۲۷  
۱/۳۱

يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ

کرکٹوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔

## حُجْرَاتُ

۱  
۲۶-۲-۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

اے ایمان والو! اپنی آوازوں

تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کیا

فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

کو۔

۱-۲-۲۶ ۱/۲۲

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ  
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ  
أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

رسول کی جناب میں اس طرح آواز بلند  
نہ کرو نہ جس طرح آپس میں آواز بلند کرتے  
ہو۔ (اندیشہ ہے) کہ تمہارے اعمال  
ضائع کر دیئے جائیں اور تم کو خبر بھی  
نہ ہو۔

۱-۴-۲۶ ۲/۲۲

فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
نَادِمِينَ ۝

پھر اپنے کئے پر پھپھتاؤ۔

.....

۱-۸-۲۶ ۳/۲۲

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ  
نِعْمَةً ۝

اللہ کے فضل اور انعام  
سے۔

۱-۹-۲۶ ۴/۱۹

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ۝

بیشک اللہ انصاف کرنے والوں  
کو پسند کرتا ہے۔

۱-۱۰-۲۶ ۵/۱۹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ ۝

بیشک مسلمان (آپس میں) بھائی  
ہی بھائی ہیں سو اپنے دو بھائیوں کے  
درمیان اصلاح کر دیا کرو۔

۲-۱۱-۲۶ ۶/۱۴

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک



وَلَا تَنَابَرُوا بِاللُّقَابِ ط

دوسرے کو بُرے القاب سے یاد کرو۔

۲-۱۲-۲۲  $\frac{۶}{۲۷۷}$

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

کیونکہ بعض گمان سے گناہ ہوتے ہیں

إِسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

اور ٹوہ میں مت لگے رہو اور کوئی

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمْ

کسی کی غیبت نہ کیا کرو کیا تم میں سے

بَعْضًا ط أَيُّ حَبِّ

کوئی اسکو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی

أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ

کا گوشت کھائے۔ (یعنی غیبت نہ کرنا گویا

لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

مردے کا گوشت کھانا ہے) اسکو تم نا

فَكَرِهْتُمُوهُ ط

پسند کرتے ہو (تو غیبت بھی نہ کرو)

۲-۱۳-۲۶  $\frac{۸}{۱۷۸}$

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

بیشک تم میں سے پرہیزگار تر اللہ کے

أَتْقَى ط

نزدیک معزز تر ہے۔

۲-۱۴-۲۶  $\frac{۹}{۱۷۱۳۰}$

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ

یہ لوگ آپ پر اسان رکھتے ہیں

أَسْلَمُوا ط قُلْ لَا تَمُنُّوا

کہ مطیع ہو گئے ہیں آپ کے بعد لیکن

عَلَى إِسْلَامِكُمْ ج

کہ مجھ پر اپنے مطیع ہو جانے کا

اسان نہ رکھو۔

۲-۱۴-۲۶  $\frac{۱۰}{۱۷۱۳}$

بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ

البتہ یہ تو اللہ کا تم پر اسان ہے

أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ

کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

دی بشرطیکہ تم (مکمل ایمان میں) سچے ہو۔

## ق

۱-۲-۲۶  $\frac{1}{3/5}$ 

هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۝

یہ تو (بڑی) عجیب بات ہے (تو کیا  
دوبارہ زندہ ہوں گے)۔

۱-۳-۲۶  $\frac{2}{1/12}$ 

ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۝

یہ رجعت تو (بہت ہی) بعید ہے۔

۱-۴-۲۶  $\frac{3}{23/4}$ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ  
حَفِيظٌ ۝

اور ہمارے پاس تو (پورا) (حبیث) (ہی)  
محفوظ ہے۔

۱-۵-۲۶  $\frac{4}{1/44}$ فَهُمْ فِي أَمْرٍ  
مَّرِيحٍ ۝

غرض یہ کہ وہ ایک متزلزل حالت میں  
ہیں۔

۱-۶-۲۶  $\frac{5}{1/32}$ وَمَا لَهَا مِنْ  
فُرُوجٍ ۝

اور اس (آسمان) میں کوئی رخمنہ  
(تک) نہیں۔

۱-۸-۲۶  $\frac{4}{2/30}$ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ  
عَبْدٍ مُّنبِئٍ ۝

جو ذریعہ ہے بینائی اور انائی کا ہر رجوع  
ہونے پر بندے کیلئے۔

۱-۹-۲۶  $\frac{5}{2/1}$ 

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

اور ہم نے آسمان سے برکت

والا پانی برسایا پھر ہم نے اس  
سے باغ اور کھیتی کا غلہ اگایا۔

مَاءٌ مُّبْرَكًا فَانْبَتْنَا  
بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ  
الْحَصِيدِۗةِ

۲۶-۱۶-۲۶  $\frac{۱}{۱۸۹}$

ہم تو اس کی رگ گردن سے بھی بڑھ  
کر قریب ہیں۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ  
حَبْلُ الْوَرِيدِۗةِ

۲۶-۱۹-۲۶  $\frac{۹}{۱۳۶۰}$

اور آپہنچی موت کی بے ہوٹی سچائی  
کے ساتھ ہی وہ حقیقت ہے  
جس سے توبہ کتا رہتا  
تھا۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ  
الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ  
ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ  
تَحِيدُۗةً

۲۶-۳۳-۲۶  $\frac{۱۰}{۱۷۸۰}$

(غرض) جو کوئی بھی (خدا سے) رحمن  
سے بے دیکھے ڈرتا ہوگا اور رجوع ہونے  
والا دل لے کر آئے گا۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ  
بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ  
مُّنِيبٍ ۗ

۲۶-۲۲-۲۶  $\frac{۱۱}{۶۷۸}$

(اس کو علم ہوگا کہ) داخل ہو جاؤاں  
جنت میں سلامتی کے ساتھ یہ دن  
بیشکی کا ہے۔

يَاۤ اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ۗ ذٰلِكَ  
يَوْمُ الْاٰخِرٰتِ ۗ

۲۶-۳۹-۲۶  $\frac{۱۲}{۸۷۶}$

اور اپنے پروردگار کی حمد اور تسبیح

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ  
الْغُرُوبِ ۝

کتے رہیے آفتاب نکلنے سے پہلے  
اور (اسکے) چھپنے سے پہلے بھی۔

۱۳  
۴۱/۲۱ - ۲۶ - ۲۰ - ۳

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَلَا بَارَ  
السُّجُودِ ۝

اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور  
نمازوں کے بعد بھی۔

۱۳  
۱۶/۸ - ۲۶ - ۲۲ - ۳

ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا  
يَسِيرٌ ۝

یہ جمع کر لینا ہمارے لیے آسان  
ہے۔

۱۵  
۵/۲۳ - ۲۶ - ۲۵ - ۳

فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ  
وَعِيدَهُ ۝

سو آپ قرآن کے ذریعہ نصیحت کرتے  
رہیے اُسے جو میری وعید سے ڈرتا ہے

## الذَّرِيَّةُ

۱  
۲۶ - ۵ - ۱

إِنَّمَا تُوْعَدُونَ  
لَصَادِقٍ ۝

جس چیز کا وعدہ کیا جاتا وہ بالکل  
برحق ہے۔

۴  
۹/۱۰ - ۲۶ - ۴ - ۱

وَ إِنَّ الدِّينَ  
لَوَاقِعٌ ۝

اور جتنا ضرور ہی ہونے والی  
ہے۔

۳  
۸/۷۱۰ - ۲۶ - ۱۵ - ۱

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ

بیشک پر مینگار لوگ بہشتوں اور چشموں

وَعِيُونٍ ۝

میں ہوں گے۔

۲۶/۱۲ ۱-۱۶-۲۶

اِخْذِيْنَ مَا اَتٰهُمْ رَبُّهُمْ  
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ  
مُحْسِنِيْنَ ۝

لے رہیں گے جو ان کے پروردگار نے  
انہیں عطا کیا ہوگا، بیشک یہ لوگ  
اس کے قبل نیکو کار تھے۔

۱۵/۱۳ ۱-۱۶-۲۶

كَانُوْا قَدِيْلًا مِّنَ الْيَلِيْلِ مَا  
يَهْجَعُوْنَ ۝

رات کو بہت کم سوتے تھے۔

.....

۴/۱۶ ۱-۱۸-۲۶

وَ لَا سَحَابٍ رَّهْمُ  
يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝

اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے  
تھے۔

۵/۱۱ ۱-۱۹-۲۶

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ  
حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ  
الْمَحْرُوْمِ ۝

اور ان کے مال میں حق رہتا تھا  
سوالی اور غیر سوالی (سب)  
کا۔

۷/۲۲ ۱-۲۱-۲۶

وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفْلا  
تُبْصِرُوْنَ ۝

اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا نہیں  
دکھائی نہیں دیتا۔

۹/۱۳ ۳-۲۶-۲۶

وَالسَّمَاءُ بَنِيْنَهَا بِاَيْدِي  
وَ اِنَّهُمُ وَسِعُوْنَ ۝

اور ہم نے آسمان کو دست قدرت سے  
بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں

۱۰  
۱۲/۶ - ۲۷ - ۳۸ - ۳

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ  
الْمُهْدُونَ ۝

اور زمین کو ہم نے فرش بنایا سو ہم کیسے  
لہجے بچھانے والے ہیں۔

۱۱  
۱۱/۱۳۱ - ۱۱/۱۳۲ - ۲۷ - ۵۱ - ۳

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ  
إِلَهًا آخَرَ ۝

اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت  
قرار دو۔

۱۲  
۲/۵ - ۲۷ - ۵۵ - ۳

فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ  
الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور (انہیں) سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا  
نفع دیتا ہے ایمان والوں کو۔

۱۳  
۶/۹ - ۱/۱۵۱ - ۲۰/۲۲

۲۷ - ۵۶ - ۳

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ  
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

اور میں نے تو جنات اور انسان کو پیدا ہی  
ای غرض سے کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں

۱۴  
۱/۸۸ - ۲۷ - ۵۷ - ۳

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مَشْرَقٌ  
وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
يُطْعَمُوا ۝

میں ان سے نہ روزی چاہتا ہوں اور  
نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلایا  
کریں۔

۱۵  
۱۱/۱۳ - ۲۷ - ۵۸ - ۳

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ  
ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝

اللہ تو خود ہی سب کو روزی پہنچانے  
والا ہے۔ قوت والا ہے۔ مضبوط

ہے۔

## الطُّور ۵۲

۱-۹-۲۶ ۲۲/۲۳	يَوْمَ تَنْمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝	(یہ اس روز ہوگا) جس روز آسمان بھری تھرائیں گے۔
۱-۱۰-۲۶ ۲۲/۲۳	وَلَسِيْرُ الْجِبَالِ سِيْرًا ۝	اور پہاڑ پھٹ پھٹ ہائیں گئے۔
۱-۱۲-۲۶ ۲۵/۹	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ نَحْوِ جَنِّ يَلْعَبُوْنَ ۝	جنت بہوگی کے ساتھ مشغول تکذیب، میں لگے ہوئے ہیں۔
۱-۱۶-۲۶ ۶/۸	اِنَّ الْمَتَّيْنِ فِيْ جَنَّتِ وَنَعِيْمَةٍ ۝	بیشک متقی لوگ باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے۔
۱-۱۸-۲۶ ۱۷/۸۵	فَكَرِهِيْنَ بِنَا اِنَّهُمْ رَبُّهُمْ ۝	نوش ہو رہے ہوں گے اس سے جو کچھ انکے پروردگار نے انہیں دیا ہوگا۔
۱-۱۸-۲۶ ۱/۸۵	وَوَقَرُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ ۝	اور ان کا پروردگار انہیں عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔
۱-۱۹-۲۶ ۶/۸		

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

خوب (مزے سے) کھاؤ پیو اور (نیکیوں)  
کے بدلہ جو تم کرتے رہے ہو۔

۱-۲۰-۲۶ ۹/۸

مُتَكِينِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ  
مَّصْفُوفَةٍ ۝ وَزَوَّجْنَاهُمُ  
بِحُورٍ مَّا عَيْنٍ ۝

تیکر لگائے ہوئے ہوں گے برابر بچھے ہوئے  
تختوں پر اور ہم انکی تزویج کر دیں گے گویا  
گوری بڑی آنکھ والیوں کے ساتھ۔

۱-۲۶-۲۶ ۱۱/۱۸

فَمَنْ لَّهِ عَظِيمًا  
عَذَابِ السَّمُورِ ۝

سوائد نے تم پر بڑا احسان کیا اور ہم  
کو عذاب دوزخ سے بچایا۔

۲-۲۸-۲۶ ۱۱/۵

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ  
تَقُومُ ۝

اور آپ اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح کیا  
کیجئے جب اٹھا کیجئے۔

۲-۲۹-۲۶ ۱۱/۲۱

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ  
وَإِذَا بَارَأَ النَّجْمَ ۝

اور رات میں بھی ال کی تسبیح کیجئے اور  
ستاروں سے پیچھے بھی۔

## النَّجْمُ ۵۳

۲-۳۰-۲۶ ۱۱/۵

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا  
غَوَىٰ ۝

کہ یہ تمہارے ساتھ رہنے والے بھلے  
اور غلط راستہ پر نہ گئے۔



۲۶-۳-۱ ۲/۵

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ  
الْهَوَىٰ ۗ

اور نہ وہ اپنی خواہش نفسانی سے  
باتیں بناتے ہیں۔

۲۶-۲-۱ ۳/۵

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ  
يُوحَىٰ ۗ

(ان کا کلام تو) تمام توحی ہی ہے جو ان  
کو بھیجی جاتی ہے۔

۲۶-۱۰-۱ ۴/۱۳۳

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا  
أَوْحَىٰ ۗ

پھر (اللہ نے) اپنے بندے پر وحی نازل  
کی جو کچھ کرنازل کیا۔

۲۶-۱۷-۱ ۵/۱۳۳

مَا تَرَاغِبُ إِلَيْهِ  
وَمَا تَرَاهُ ۗ

ان (پہیبر) کی نگاہ نہ تو مٹی اور نہ  
بڑھی۔

۲۶-۱۸-۱ ۶/۱۳۳

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ  
الْكُبْرَىٰ ۗ

انہوں نے اپنے پروردگار (کی قدرت)  
کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔

۲۶-۲۳-۱ ۷/۱۳۴

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ  
الرُّهُدَىٰ ۗ

در آنجا ایک انکے پاس ان کے پروردگار  
کی طرف سے ہدایت اچھی ہے۔

۲۶-۲۹-۲ ۸/۵

فَأَعْرَضَ عَنْ مَكَّنٍّ  
تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا ۗ

تو آپ اسکی طرف سے خیال ہی ہٹا  
یعنی سوجوبے پر والی اختیار کئے ہوئے ہے  
ہمدی نصیحت کی طرف سے۔

۲۶-۳۰-۲۶  $\frac{۹}{۲۶/۴}$ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ  
الْعِلْمِ طان لوگوں کے علم کی رسائی کی بھی بس  
یہی ہے۔۲۶-۳۲-۲۶  $\frac{۱۰}{۶/۱۳}$ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ  
الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا  
اللَّيْمَةَ طوہ لوگ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں اور  
بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں مگر بڑا  
کربلے بلکے گناہ ہو جائیں۔۲۶-۳۸-۲۶  $\frac{۱۱}{۲۳/۱۳}$ أَلَّا تَنْزِرُوا آيَاتِنَا لِقَوْمٍ  
أَخْرَجْنَاکوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ  
نہیں اٹھا سکتا۔۲۶-۳۹-۲۶  $\frac{۱۲}{۱/۱۵۲}$ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا  
مَا سَعَى طاور انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے  
گی۔۲۶-۵۲-۲۶  $\frac{۱۳}{۱۸/۱}$ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ  
وَأَطْلَى طبیشک وہ اور بھی بڑھے ہوئے ظالم  
سرکش تھے۔۲۶-۵۲-۲۶  $\frac{۱۴}{۱۸/۳}$ 

فَغَشَّاهَا مَا عَشَى ط

پھر ان بستیوں کو گھیر لیا، جس چیز  
نے گھیر لیا۔القدر <sup>۵۲۴</sup>۲۶-۱-۲۶  $\frac{۱}{۱۴/۱۳}$

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنُّفُوسُ  
الْقَمَرَةُ ۝

قیامت قریب آپہنچی اور چاند شفق  
ہوگی۔

۲  
۱۱/۳ ۱-۳-۲۴

وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۝

ہر بات کا ایک مقام قرار ہے۔

۴  
۵/۱ ۱-۶-۲۶

كَانَتْهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرَةٌ ۝

د افراد قوم، اس طرح پھیل جائیں گے  
جیسے مڑی پھیل جاتی ہے

۴  
۱/۲۱ ۱-۱۰-۲۶

أَنِي مُغْلُوبٌ فَاانْتَصِرْ ۝

کہیں بے بس ہوں میری مدد فرما۔

۵  
۲۲/۳ ۱-۱۶-۲۶

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ  
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن  
کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ سو ہے  
کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔

۶  
۲۳/۴ ۱-۲۰-۲۶

كَانَتْهُمْ أَعْجَانُ نَخْلِ  
مُنْقَعِيرٍ ۝

گویا کہ وہ اکھیڑی ہوئی کھجوروں کے  
تنے ہیں۔

۷  
۱/۱۲ ۳-۲۲-۲۶

فَاخْذُ لَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ  
مُّقْتَدِرٍ ۝

تو ہم نے (انہیں) ازبردست مناسب  
قدرت کی پکڑ پکڑی۔

۸  
۱/۸۱۰ ۳-۲۵-۲۶

سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيَوْلُونَ  
الدَّبْرَةَ ۝

اسوں کے جمع یہ باہوت شکست  
کھائیگی اور پیٹھ پھیر کر جھالیں گے۔

۳-۵۰-۲۶  $\frac{۹}{۲۹/۴}$ 

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ  
كَلِمَةٍ أَوْ بِالبَصِيرَةِ

اور ہمارا حکم بس ایسا ایک ہی ہو  
جائیگا جیسے آنکھ کا جھپکا۔

۳-۵۵-۲۶  $\frac{۱۰}{۶/۸}$ 

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ  
مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

ایک اعلیٰ مقام میں قدرت والے  
بادشاہ کے نزدیک۔

## الرَّحْمٰنُ

۱-۱۱-۲۶  $\frac{۱}{۲۲/۵}$ 

الرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ  
الْقُرْآنَ ۙ

خداے رحمن ہی نے قرآن کی تعلیم  
دی۔

۱-۲-۳-۲۶  $\frac{۲}{۱/۹۲-۱/۱۵۱}$ 

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ  
الْبَيَانَ ۙ

اُس نے انسان کو پیدا کیا سوائے کو  
گویائی سکھائی۔

۱-۹-۲۶  $\frac{۳}{۲۶/۲۴۰-۳/۲۰}$ 

وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ  
بِالْقِسْطِ ۙ وَلَا تَخْسِرُوا  
الْمِيزَانَ ۙ

اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف  
کے ساتھ اور تول کو گھٹاؤ  
مت۔

۶/۱۴-۲۲/۲۰  $\frac{۴}{۱/۱۵۱}$ 

۱-۱۳-۲۶

سو تم (اے جن دانش اپنے پروردگار کی  
کن کن نعمتوں کو بھنلاؤ گے۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا  
تُكَذِّبِينَ ۝

۲۶/۱۸ - ۲۶ - ۱۶ - ۱

دونوں مشرقوں کا پروردگار ہے اور وہی  
دونوں مغربوں کا پروردگار ہے۔

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ  
الْمَغْرِبَيْنِ ۝

۲۵ - ۱۹ - ۱

اکی نے دو دریاؤں کو پلایا کہ باہم ملے  
ہوئے بھی ہیں۔

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ  
يَلْتَقِيْنَ ۝

۲۶ - ۲۰ - ۱

(اور) دونوں کے درمیان ایک حجاب  
رہتا ہے کہ دونوں (اگے) بڑھ نہیں سکتے

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ۙ  
يَنْبَغِيْنَ ۝

۲۴ - ۲۲ - ۱

ان دونوں میں سے موتی اور موز کا برآمد  
ہوتے ہیں۔

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ  
وَالْمَرْجَانُ ۝

۲۶ - ۲۴ - ۱

زمین پر جو بھی ہیں سب فنا ہونے والے  
ہیں۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا  
فَانٍ ۝

۲۶ - ۲۶ - ۱

اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات  
عظمت و اعزاز والی، باقی رہ جانے  
والی ہے۔

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ  
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

۱۱/۶ - ۱۲/۳ - ۲۰/۲۲

۲۶ - ۳۳ - ۲

اے گروہ جن وانس اگر تمہیں یہ  
قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے  
حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکل  
دیکھو (لیکن) بغیر زور کے نکل سکتے  
ہی نہیں۔

يَمَعَشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ  
إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ  
تَنْفُذُوا مِنْ أَوْقَاتِهِ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
فَأَنْفُذُوا ۗ لَا تَنْفُذُونَ  
إِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝

.....

۱۲/۱۱ - ۲۱ - ۲۰

مجرم لوگ تو اپنے حلیہ ہی سے پہچان  
لئے جائیں گے۔

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ  
بِسِيَرِهِمْ

۱۳/۸ - ۲۶ - ۲۶

اور جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے  
ہونے سے ڈرتا ہے اُس کے لیے دو باغ ہوں گے

وَلِيَمَنۢ خَافَ مَقَامَ  
رَبِّهِ جَنَّتَيْنِ ۝

۱۴/۱۳ - ۲۶ - ۴۰

بھلا کمال اطاعت کا بدلہ بجز کمال عنایت  
کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا  
الْإِحْسَانُ ۝

۱۵/۸ - ۲۶ - ۷۰

اُن میں اچھی سیرت والیاں اچھی صورت  
والیاں ہوں گی۔

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنٰتٌ ۝

۱۶/۸ - ۲۶ - ۷۲

حَوْرًا مَّقْصُورَاتٍ فِي  
النَّحْيَامِرَّةِ

سوریں ہیں رکی رہنے والیاں خیموں  
میں۔

۱۶/۸ - ۲۶ - ۶۶ - ۳

مُتَّكِنِينَ عَلَى مَا فُرِفِ  
خُضِرٌ وَ عَبْقَرِيٌّ  
حِسَانَةٌ

تکیہ لگائے بیٹھے بزمسندوں  
پر اور قیمتی نفیس پھونے  
پر۔

## الواقعة<sup>۵۶</sup>

۱ - ۱ - ۲۶ ۲۲/۲۳

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

جب قیامت واقع ہوگی۔

۱ - ۲ - ۲۶ ۲۲/۲۴

لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا  
كَاذِبَةٌ

جس کے واقع ہونے میں کوئی  
غلاف نہیں۔

۱ - ۸ - ۲۶ ۱/۴۵ - ۱/۴۴

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ  
مَأْ أَصْحَابِ  
الْيُسْنَىٰ

سو جو داہنے والے میں وہ داہنے  
والے کیسے اچھے ہیں۔

۱ - ۹ - ۲۶ ۱/۴۲

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ  
مَأْ أَصْحَابِ الْمَشْأَمَةِ

اور جو بائیں والے میں وہ بائیں والے  
کیسے بڑے ہیں۔

۱-۱۷-۲۷  $\frac{۵}{۶}$

اُن کے پاس روکے جو ہمیشہ روکے ہی رہیں گے۔

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝

۱-۱۸-۲۷  $\frac{۶}{۶}$

یہ چیزیں لے کر آمدورفت رکھیں گے  
انجورے اور آفتابے اور بہتی ہوئی  
شراب سے لبریز جام۔

بَاكُوَابٍ وَّ اَبَابٍ مُّبِيحٍ ۝  
وَّ كَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝

۱-۱۹-۲۷  $\frac{۷}{۱۳/۴}$

جس سے نہ انکو درد سر ہوگا اور نہ اس  
سے عقل میں فتور آئے گا۔

لَا يَصِدُّوْنَ عَنْهَا وَلَا  
يُنْزِفُوْنَ ۝

۱-۲۳-۲۷  $\frac{۸}{۶/۶}$

یہ اُن کے عمل کے صلہ میں ملے  
گا۔

جَزَاءً بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُوْنَ ۝

۲-۵۰-۲۷  $\frac{۹}{۲۶/۳۸}$

سب ہی جمع کئے جائیں گے ایک  
یوم معین کے وقت پر۔

لَمَجْمُوعُوْنَ ۝ اِلَى  
مِيْقَاتٍ يَّوْمٍ  
مَّعْلُوْمٍ ۝

۲-۵۹-۲۷  $\frac{۱۰}{۴/۱۹}$

تو آدمی تم بناتے ہو یا (اس کے)  
بنانے والے ہم ہیں۔

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ ۝ اَمْ  
نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ۝

۲-۶۳-۲۷  $\frac{۱۱}{۱۲/۲}$

اُسے تم آگاتے ہو یا (اس کے) آگنے

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَ ۝ اَمْ



نَحْنُ الزَّرَّاعُونَ ۝

ہمے ہم ہیں۔

۱۲  
۳-۶۹-۲۶ ۷۲/۵

لَا يَيْسُرُ إِلَّا الْمَطْفَرُونَ ۝

جسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا بجز پاکوں کے۔

۱۳  
۳-۸۸-۲۶ ۱/۳۰

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ

تو جو کوئی مقربین سے ہوگا۔

الْمُقَرَّبِينَ ۝

۱۴  
۳-۸۹-۲۶ ۴/۸

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۝

تو اس کے لیے راحت ہے، غذائیں ہیں اور عیش کی جنت ہے۔

وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۝

۱۵  
۳-۹۰-۲۶ ۱/۳۵

وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ مِنْ

اور جو کوئی اپنے والوں میں سے ہوگا۔

أَصْحَابِ الْبَيْتِ ۝

۱۶  
۳-۹۱-۲۶ ۱/۳۵

فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ

اس سے کہا جائیگا (تیرے لیے امن والوں کے ہے کہ تو اپنے والوں میں سے ہے۔

الْبَيْتِ ۝

۱۷  
۳-۹۴-۲۶ ۸/۷

فَنَسَبْتُمْ بِأَسْمَاءِ رَبِّكُمُ

سو آپ اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔

الْعَظِيمِ ۝

## الحدید

۱-۲-۲۷ ۱۲/۸-۱۱/۲۷

وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

۱-۳-۲۷ ۲/۱۶

وہی ہے (سب سے) پہلا اور سب سے پچھلے اور وہی (ظاہر و باطن) بھی اور وہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

۱-۴-۲۷ ۳/۹۱

اور وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

۱-۴-۲۷ ۴/۶۳

اور وہ خوب دیکھتا رہتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے رہتے ہو۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

۱-۵-۲۷ ۵/۶

اور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا جانشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔

وَ أَنْفَعُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ

۲۶/۳۰ - ۱/۱۸ - ۱۳/۴

۱-۱۰-۲۶

وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْتُمْ تَنْفِقُوا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ  
مُذَبِّحَاتُ السَّمَوَاتِ وَ  
الْأَرْضِ ط

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں  
خرچ نہیں کرتے ہو دراصل تم ایک آسمان  
اور زمین سب آخر میں اللہ ہی کے رو  
جائیں گے۔

۲۶/۴ - ۱۱-۲

مَنْ ذَا الَّذِي  
يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا  
حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ  
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

کوئی شخص ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض  
کے طور پر دے پھر اللہ اسے اس شخص  
کے لیے بڑھا تا پہلا جائے اور اس کے لیے  
اجر پسندیدہ ہے۔

۲۶/۱۵ - ۳۰-۲

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ

اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

.....

۲۶/۱۳۲ - ۱۴-۲

وَعَسَىٰ تَكْفُرُ الْأَمَانِيُّ

اور تم کو تمہاری بیہودہ تمناؤں نے دھوکہ  
میں ڈال رکھا تھا۔

۲۶/۹۳ - ۱۶-۲

الْمَ يَأْمِنُ الَّذِينَ آمَنُوا  
أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ  
لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ

کیا ایسا لانے والوں کے لیے وقت  
نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت  
اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے آگے

جھک جائیں۔

مِنَ الْحَقِّ ۝

۱۱  
۲۲/۱۳

فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ ۝

تو انکے دل ٹوٹ گئے اور جھک گئے۔

۱۲  
۲۵/۹

رَاعِدْتُمْ أَتَمَّ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهُوَ

وَرِيضَةٌ تَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ

وَتَكَثُرُ فِي الْأَمْوَالِ

وَالْأَوْلَادِ ۝

خوب جان لو کہ دنیوی زندگی محض ایک  
کھیل کود اور دظاہری (خوشنمائی اور  
اپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور  
مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر اپنی  
برتری بتلانا۔

۱۳  
۲۷/۲۲

وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ

رِضْوَانٌ ۝

اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور  
خوشنودی بھی۔

۱۴  
۲۰/۱

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

مَتَاعٌ الْغُرُورِ ۝

اور دنیوی زندگی محض دھوکے کا سامان  
ہے۔

۱۵  
۱/۱۰۶

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

مَنْ يَشَاءُ ۝ وَ

اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمِ ۝

یہ اللہ کا فضل ہے وہ اپنا  
فضل جسے چاہے عطا کرے  
اور اللہ ہی بڑے فضل والا  
ہے۔

۱۶  
۱/۱۴

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ  
فَخُورٍ ۝

اللہ کسی اترانے والے شخص کو پسند  
نہیں کرتا ہے۔

۱۶  
۳-۲۵-۲۶ ۸/۶

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ  
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْ آفَاقُ  
لِلنَّاسِ ۝

اور ہم نے لوہے کو انجمنی، نازل کیا کہ  
اس کے اندر شدید ہیبت ہے اور لوہا  
کیلئے (اور بھی) ناند سے ہیں۔

۱۸  
۳-۲۵-۲۶ ۱/۱۱۸

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن  
يَنْصُرُهُ وَرَأْسُكَهُ  
بِالْغَيْبِ ۝

اور اس لیے بھی تاکر اللہ تعالیٰ کے بے  
دیکھے اس کی اور اس کے پیغمبروں کی کون  
مدد کرتا ہے۔

۱۹  
۳-۲۹-۲۶ ۱/۱۰۶

وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ  
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ  
ذُو الْفَضْلِ  
الْعَظِيمِ ۝

اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ  
میں ہے وہ جسے چاہے عطا  
کرتے اور اللہ بڑا فضل والا  
ہے۔

## المُجَادَلَةُ ۝

إِن أَقْبَضْتَهُمْ إِلَّا إِلَىٰ  
وَلَدَانِهِمْ ۝

انکی مائیں تو بس وہی میں جنہاں نے  
ان کو بنا ہے۔

۱  
۱-۲-۲۸ ۱/۱۲۱

۲۷/۲۸ ۱-۲-۲۸

وَأَنزَلْنَا لَهُمُ لَيَالِي سُرُورٍ  
مُّذَكَّرًا مِّنَ الْقَوْلِ  
وَنَزَّوْرًا ط

یہ لوگ یقیناً ایک نامقول  
بات اور جھوٹ کہہ رہے  
ہیں۔

۳ ۱-۵-۲۸

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی  
مخالفت کرتے رہے ہیں۔

۲۳/۸ - ۹/۶

۱-۵-۲۸

كَبِتُوا كَمَا كَبَّتِ الدِّينِ  
مِنْ قَبْدِهِمْ

یہ خوار ہوں گے جیسے کہ ان کے قبل  
کے لوگ خوار ہو چکے ہیں۔

۲-۶-۲۸ ۱۱/۹۸

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ ط

کیا آپ نے اس پر نظر نہیں کیا کہ اللہ سب  
کچھ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے  
اور جو کچھ زمین میں ہے۔

۵ ۲-۶-۲۸ ۲۴/۱۲

مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوَى  
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ  
رَابِعُهُمْ

کوئی سرگوشی تین (آدمیوں) میں  
ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا  
نہ ہو۔

۶ ۲-۶-۲۸ ۲۴/۱۳

وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ

اور نہ پانچ (آدمیوں) کی جس میں چھٹا

مَادِ سُرَّتُمْ

وہ نہ ہو۔

۲۷۱/۲۸ - ۲۸ - ۲-۶

وَلَا آذُنِي مِنْ ذَلِكَ  
ذَلَا أَكْثَرُ۔اور نہ اس سے کم اور نہ  
زیادہ۔

۲۷۱/۲۸ - ۲۸ - ۲-۶

إِلَّا هُوَ مَعَرَّضٌ آيِنَ مَا  
كَانُوا جمگر یہ کروہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے  
خواد وہ کہیں ہوں۔

۲۷۱/۲۸ - ۲۸ - ۲-۶

۲۸ - ۹ - ۲

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا  
تَتَنَاجَوْا بِالْإِشْمِ وَالْ  
عُدَاوَانِ وَمَعْصِيَتِ  
الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰاسے ایسا ن والو! جب تم کسی سے  
سرکوشی کرو تو سرکوشی نہ اور یاد آتی  
اور نافرمانی رسول کی نہ کرو۔ اور نیکی  
اور پرہیزگاری کی باتوں کی نہ کوٹھیل  
نرو۔

.....

— وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَاور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس  
تم سب جمع کئے جاؤ گے۔

۲۷۱/۲۸ - ۲۸ - ۲-۶

إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا  
فِي الْمَجَالِسِ  
فَاتَفَسَّحُواجب تم سے کہا جائے کہ مجلس  
میں جاگ کھول دو، تو جاگ کھول دیا  
نرو۔

وَإِذَا قِيلَ النَّشْرُ وَالنَّشْرُ وَالنَّشْرُ وَالنَّشْرُ  
فَانشُرُوا -

اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو  
اٹھ کھڑے ہو کرو۔

۱۱/۳۱ ۲۸-۱۶-۳

إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ  
جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

انہوں نے اپنی قسموں کو سہم بنا رکھا ہے  
پھر (اوروں کو) اللہ کی راہ سے روکتے  
ہیں سو ان کے لیے ذلت کا عذاب  
ہونے والا ہے۔

۱۲/۱۶ ۲۸-۱۴-۳

لَنْ تَغْنِيَ عَنْهُمْ  
أَمْوَالُهُمْ  
وَلَا آذِلَّةٌ لَهُمْ  
مِّنَ اللَّهِ  
شَيْئًا ۝

ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے  
عذاب سے انہیں ذرا بھی نہ بچا  
سکیں گی۔

۱۳/۸ ۲۸-۱۹-۳

إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ  
الشَّيْطَانُ  
وَأَنسَاهُمْ  
ذِكْرَ اللَّهِ ۝  
أُولَئِكَ  
سِجِبُ  
الشَّيْطَانِ ۝

ان پر شیطان چھا گیا ہے سو ان نے  
انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے یہ  
لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔

.....

۱۴/۳۱ ۲۸-۲۲-۳

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي  
قُلُوبِهِمُ  
الْإِيمَانَ  
وَ  
أَيَّدَهُمْ  
بِرُوحٍ  
مِّنْهُ ۝

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے  
دلوں میں ایمان مثبت کر دیا ہے  
اور انہیں اپنے فیض سے قوت دی۔

۱۵/۸ ۲۸-۲۲-۳



یہی ہے گروہ اللہ کا سزا بلاشبہ  
 اللہ کا گروہ ہی سلام پانے والا  
 ہے۔

أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۖ  
 أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ  
 الْمُفْلِحُونَ ۚ

## الحشر

۱-۲-۲۸ ۲۲/۱-۸/۱۶

وہ وہی ہے جس نے کفار اہل  
 کتاب کو ان کے گھروں سے پہلی  
 ہی بار اٹھا کر کے نکال دیا۔

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  
 الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ  
 لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۖ

۱-۲-۲۸ ۲۳/۸

سوال اللہ کا (عذاب، ان پر ایسی عذاب  
 پہنچا کر انہیں خیال بھی نہ تھا۔

فَأَنزَلْنَا اللَّهُمَّ مِنْ حَيْثُ لَمْ  
 يَحْتَسِبُونَ ۗ

۱-۲-۲۸

اور اللہ نے ان کے دلوں میں ڈر  
 ڈال دیا۔

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ  
 الرُّعُوبَ ۗ

۱-۲-۲۱ ۱۶/۲

تو وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے  
 ہی اٹھا کر بے تحاشے اور مسلمانوں کے ہاتھوں  
 سے بھی، سوائے دانشمندانہ اور اہل  
 فَعَتَبُوا وَتَأْوِيلُ

حاصل کرو۔

الْأَبْصَارُ ۵

۲۸-۶-۱

تا کہ وہ (مال فے) تمہارے۔  
تو نگروں ہی کے قبضہ میں نہ آ  
جائے۔

كَيْ لَا يَكُونَ  
دَوْلَةً مِّمَّنْ الْأَغْنِيَاءِ  
مِنْكُمْ

۲۸-۶-۱

تو رسول جو کچھ تمہیں دے دیا کریں وہ  
سے لیا کرو۔ اور جن سے تمہیں روک  
دیں رک جایا کرو۔

وَمَا أَلْتِكُمُ الرَّسُولُ  
فَنُخِذُوا قَوْمًا مِّنْكُمْ  
عَنْهُ فَأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ

۲۸-۹-۱

اور جو اپنی طبیعت کے نخل سے  
محفوظ رکھا جائے، سو ایسے ہی لوگ  
تو فلاح پانے والے ہیں۔

وَمَنْ يُّوقِ شَهْرَهُ نَفْسِهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۵

۲۸-۱۰-۱

اور ہمارے دلوں میں ایسا  
دالوں کی طرف سے کیسہ نہ ہونے  
وے۔

وَلَا تَجْعَلْ فِي  
قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ  
آمَنُوا ۵

۲۸-۱۳-۱

بیشک تم لوگوں کا خوف ان کے  
دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ  
ہے۔

لَا أَتُكْمُ أَشَدُّ رَهْبَةً  
فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ  
اللَّهِ ۵

۹  
۲/۱۶ ۲۸-۱۴-۱

نَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ  
شَقِيحَةٌ

تو انہیں متفق خیال کرتا ہے حالانکہ ان  
کے قلب غیر متفق ہیں۔

— ۲۸-۳۷-۲

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا  
يَعْقِلُونَ ۝

یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے  
کام نہیں لیتے۔

۱۰  
۳/۱۸-۲۸-۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ  
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ  
لِغَيْرِ ۝

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے  
رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس  
نے کل کے واسطے کیا بھیجا ہے۔

۱۱  
۳/۱۹-۲۸-۱۱/۴۶

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ  
نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَرَهُمُ  
أَنفُسَهُمْ ۝

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں  
نے اللہ کو بھلا دیا، سو ان نے خود  
انہی جانوں کو ان سے بھلا دیا۔

۱۲  
۴/۸-۲۱/۱۵-۲۸-۲۰-۳۰

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ  
النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ  
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ  
الَّذِينَ يُزَوَّجُونَ

اہل دوزخ اور اہل جنت برابر  
نہیں۔ اہل جنت تو کامیاب لوگ  
ہیں۔

۱۳  
۴/۲۱-۲۸-۲۰-۳۰

وہ جلتے والا پوشیدہ اور ظاہر کا وہی نہایت  
مہربان ہے بار بار رحم کرنے والا  
ہے ....

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالتَّشْرِيحِ  
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۵

۱۲/۱۹۵ ۲۸-۲۳-۳

پاک ہے اللہ لوگوں کے شرک  
سے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا  
يُشْرِكُونَ ۵

۵/۱۳۷ ۲۸-۲۳-۳

اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۶

## وہ - الممتحنہ

اسے ایمان والو! تم میرے دشمن  
اور اپنے دشمن کو دوست بننا  
لینا کہ ان سے محبت کا اظہار  
کرنے لگو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ  
أَوْلِيَاءَ

۲/۳۳۸ ۲۸-۱-۱

رسول کو اور خود تم کو اس بنا پر  
شہید کر چکے ہیں کہ تم اپنے پروردگار  
اللہ پر ایمان لے آئے ہو۔

يُخْرِجُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ  
بِإِذْنِ اللَّهِ  
رَبِّكُمْ ۷

۳/۲۹۱ ۲۸-۱۱-۱۱

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ  
وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ

تہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد  
تمہارے کچھ کام نہ آئے گی قیامت  
کے دن۔

۱-۲-۲۸ ۲/۲۱

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا  
وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ وَإِلَيْكَ  
الْمَصِيرُ

اے ہمارے پروردگار ہم تجھ پر توکل کرتے  
ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور  
تیری طرف لوٹنا ہے۔

۱-۵-۲۸ ۲/۲۱

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً  
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کا  
تختہ مشق نہ بنا۔

۲-۱۳-۲۸ ۲/۱۱۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ  
عَلَيْهِمْ

اے ایمان والو! ان لوگوں سے دوستی  
مت رکھو جن پر اللہ نے غضب  
نازل کیا۔

۲-۱۳-۲۸ ۲/۶۶

فَدَيَسُّوْا مِنَ الْآخِرَةِ  
كَمَا يَسُّوْنَ الْكُفَّارِ مِنْ  
أَصْحَابِ الْقُبُورِ

وہ آخرت سے ایسے مایوس ہو سگے  
جیسے قبروں والے کافر مایوس  
ہیں۔

## الصَّفِّ

۱-۲-۲۸  $\frac{1}{23/18}$

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ  
تَقُولُونَ مَا لَا  
تَفْعَلُونَ ۝

اے ایمان والو! ایسی بات کیوں  
کہتے ہو جو کرتے نہیں۔  
.....

۱-۳-۲۸  $\frac{2}{23/18}$

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ  
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

اللہ کے نزدیک یہ بات بہت  
ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو  
نہیں۔

۱-۴-۲۸  $\frac{3}{2/21}$

صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ  
مَّرْمُورٌ ۝

کہ گویا وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی  
عمارت ہے۔

۱-۵-۲۸  $\frac{4}{1/152}$

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ  
قُلُوبَهُمْ ۝

پھر جب ان لوگوں نے کجی اختیار کی تو  
اللہ نے انکے دلوں کو کج کر دیا۔

۱-۶-۲۸  $\frac{5}{24/14-1/122}$

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ  
مِنَ بَعْدِ إِسْمَاعِيلَ  
أَحْمَدًا ۝ فَلَمَّا جَاءَهُ هُدًى

اور ایک رسول کی بشارت دینے والا  
جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا  
نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے

پاس کھلے نشانات لائے تو وہ لوگ  
برے یہ تو صریح جادو ہے۔

بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا  
سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

۶/۱۲۶ ۲۸-۸-۱

یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو  
اپنے منہ سے بھگادیں۔ حالانکہ اللہ  
اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے  
گا۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ  
اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ۗ وَاللَّهُ  
مُتِمُّهُ نُورَهُ ۗ وَلَوْ  
كِرَاهًا الْكُفْرَانِ ۝

۶/۱۹۳ ۲۸-۱۰-۱

اے ایمان والو! کیا میں تمہیں  
ایسی سوداگری بتا دوں، جو تمہیں  
عذاب دردناک سے بچا دے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى  
تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ  
عَذَابِ أَلِيمٍ ۝

۲۸-۱۲-۱

اور عمدہ مکانوں میں (داخل کرے گا)  
جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہونگے۔

وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي  
جَنَّتِ عَدْنٍ ۝

۹/۲۱۲ ۲۸-۱۳-۱

(یعنی، اللہ کی طرف سے مدد اور  
بلدِ فقیابی۔

نَصْرٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ  
قَرِيبٍ ۝

۶۴  
الجمعة

۱/۱۲۲ ۲۸-۲-۱

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي  
 الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا  
 مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ  
 آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ  
 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  
 وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ  
 كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَعَفَى  
 صَلِيلٍ مُّبِينٍ ۝

۲۸-۵-۱

گمٹل الجمار یحیل  
 اسفارا ط

۳۱/۸۳-۱۳/۱۵-۲۶/۲

۲۸-۹-۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 إِذَا تَوَدَّيَ لِلصَّلَاةِ  
 مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
 فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
 وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ  
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
 تَعْلَمُونَ ۝

۲۸-۱۰-۲

۳۱/۱۴-۱۵/۱۳

وہی تو ہے جس نے اُمی لوگوں میں انہیں  
 میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ  
 کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور  
 انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں  
 کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا  
 ہے۔ درآنحالیکہ یہ لوگ پہلے  
 سے کھلی ہوئی گمراہی میں  
 تھے۔

انہی مثال اس گدھے کی سہا ہے جو  
 کتابیں لادے ہو۔

اے ایمان والو! جب جمعہ کی  
 اذان کہی جائے نماز کے لیے تو  
 چل پڑا کرو۔ اللہ کی یاد کی طرف  
 اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو  
 یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ  
 رکھتے ہو۔

.....



فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ  
وَالْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ  
اللّٰهِ -

پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین  
پر چلو پھرو اور اللہ کی روزی  
ملاش کرو۔

۲۸-۱۱-۲۸ ۵/۲۵/۹  
قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ  
مِّنَ الذَّهَبِ وَ مِنَ  
التَّجَارَةِ ط

آپ کہہ دیجئے کہ جو چیز اللہ کے پاس  
ہے وہ تماشہ اور سونے سے کہیں  
بہتر ہے۔

۲۸-۱۱-۲۸ ۶/۱۱/۱۳  
وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ط

اور اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے

## ۶۳ الْمُنْفِقُونَ

۲۸-۲۸-۱۰ ۵/۲۵/۹  
كَانَتْهُمْ حَشَبٌ  
مُّسَدَّدَةٌ ط

گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں سہارے سے  
لگائی ہوئی۔

۲۸-۲۸-۱۰ ۲/۲۰/۱  
وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ  
تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ  
رَسُوْلُ اللّٰهِ اَوْرَاْعُوْا سَمْعَكُمْ  
وَرَاٰيَتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَاَوْقَفُوْا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ  
رسول اللہ تمہارے لیے استغفار  
کرویں تو اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور  
آپ انہیں دیکھیں گے کہ بے غمی کرتے

مُسْتَكْبِرُونَ ۝

ہیں تکبر کرتے ہوئے۔

۱-۶-۲۸  $\frac{۳}{۲۶/۲۹-۱/۱۸}$ 

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا  
تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ  
رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى  
يُنْفِقُوا ۝

یہی لوگ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول  
اللہ کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ  
مت کرو۔ یہاں تک کہ وہ (آپ ہی)  
منتشر ہو جائیں۔

۱-۸-۲۸  $\frac{۴}{۱۹/۱}$ 

وَاللَّهُ الْعِزَّةُ ذَلِيلُ رَسُولِهِ  
وَاللَّهُ مَبِينٌ وَلَكِنَّ  
الْمَنَّا فَنَقِيَّتْ لَا  
يَعْلَمُونَ ۝

حالانکہ عزت تو بس اللہ ہی کی ہے  
اور اس کے پیغمبر کی اور ایمان والوں  
کی البتہ منافقین ہی اس کا علم نہیں  
رکھتے۔

۱-۹-۲۸  $\frac{۵}{۱/۸۳-۲۶/۲}$ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ  
وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ  
ذِكْرِ اللَّهِ ۝

اے ایمان والو! کہیں تمہارا  
مال اور تمہاری اولاد تمہیں  
اللہ کی یاد سے غافل نہ کر  
دیں۔

۱-۱۰-۲۸  $\frac{۶}{۱/۱۵۳}$ 

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا  
رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ۝

اور ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا  
ہے اس میں سے خرچ کرو قبل  
اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ  
کھڑی ہو۔

## التَّغَابُنُ

۱-۲-۲۸ ۲۶/۳۳

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ  
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ  
مُؤْمِنٌ طوہ وہی ہے جس نے تم (سب) کو  
پیدا کیا، سو بعض تم میں سے کافر ہیں  
اور بعض تم میں سے مومن۔

۱-۳-۲۸ ۱/۱۳۵

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ  
صُوْرَكُمْ جاور تمہارا نقشہ بنایا، سو تمہارا (کیسا)،  
اچھا نقشہ بنایا۔

۱-۴-۲۸ ۳/۸۱

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ  
الصُّدُوْرِ هاور اللہ تو دلوں تک کی بات خوب  
جاننے والا ہے۔

۱-۹-۲۸ ۴/۹

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ  
الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ  
التَّغَابُنِ طوہ دن (یاد رکھو جب) وہ تمہیں اک جمع  
کرنیوالے دن میں جمع کرے گا یہی (دن) ہے  
(نقصان اور نفع) کے ظاہر ہونے کا دن۔

۲-۱۱-۲۸ ۵/۱۶

مَا أَصَابَ مِنْ  
مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ  
اللَّهِ طکوئی مصیبت ایسی نہیں آتی جو  
بجز اللہ کے حکم کے ہو۔

۲۸-۱۱-۲ ۴/۲۹

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ  
قَلْبَهُ ۖاور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے  
وہ اُسے راہ دکھا دیتا ہے۔

۲۸-۱۲-۲ ۶/۱۲۸

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا  
الرَّسُولَ ۚاور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت  
کو رسول کی۔

۲۸-۱۲-۲ ۸/۴۵

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا  
عَلَىٰ رُسُلِنَا الْبَلَدُ  
الْمُبِينُ ۝پھر اگر تم نے روگردانی کی تو ہمارے  
رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف  
پہنچا دینا ہے۔

۲۸-۱۳-۲ ۹/۴۱۸

وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝اور ایمان والے بس اللہ ہی پر بھروسہ  
رکھتے ہیں۔

۲۸-۱۵-۲ ۱۱/۳۱

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ  
فِتْنَةٌ ۖتمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس  
آزمائش ہی کی (چیزیں) ہیں۔

۲۸-۱۵-۲ ۱۱/۱۹

وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ  
عَظِيمٌ ۝اور اللہ کے پاس بڑا اجر  
ہے۔

۱۲/۱۳۱-۱/۸-۶/۲۱

۲۸-۱۶-۲

فَا تَقْرُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  
وَاسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا  
وَ أَنْفِقُوا خَيْرًا  
رِّآئِ أَنْفُسِكُمْ ۗ وَ مَنْ  
يُؤُوقَ شُئْرَهُ نَفْسِهِ  
فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ۗ

سوا اللہ سے ڈرتے رہو جہاں تک  
تم سے ہو سکے اور سنتے رہو اور اطاعت  
کرتے رہو، اور اپنے حق میں بھلائی  
کے لیے خرچ کرتے رہو اور جو کوئی  
محفوظ رہا موصوفہ نفسانی سے تو یہی  
لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

.....

۱۳  
۲۲/۶

۲۸-۱۶-۲

إِنْ تَقْرَضُوا مِنَ اللَّهِ قَرْضًا  
حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ  
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ

اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے  
تو وہ اسکو تمہارے لیے بڑھا تا چلا جائے  
گا اور تمہیں بخش دے گا۔

## الطَّلَاق

۱/۵  
۱-۱-۲۸

وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ ۗ

اور جو کوئی اللہ کے حدود سے  
تجاوز کرے گا اُن نے اپنے اوپر  
ظلم کیا۔

۲  
۱۴/۱۸

۲۸-۲-۱

وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ  
لِلَّهِ ۗ

اور گواہی تمہیک تمہیک اللہ کے  
واسطے دو۔

۳  
۱-۲-۲۸ ۱/۸

اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ  
اسکے لیے کٹائش پیدا کر دیتا ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  
لَهُ مَخْرَجًا ۝

۴  
۱-۳-۲۸ ۱۱/۱۳

اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے  
جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ  
لَا تَحْتَسِبُ ۝

۵  
۱-۴-۲۸ ۱/۸

اور جو کوئی اللہ سے تقویٰ اختیار کرے  
گا۔ اللہ اس کے (بہر) کام میں آسانی  
پیدا کر دے گا۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ  
يُسْرًا ۝

۶  
۱-۵-۲۸ ۱/۸

اور جو کوئی اللہ سے تقویٰ اختیار  
کرے گا، اللہ اس کے گناہوں سے دور  
کر دے گا اور اسکو بڑا اجر دے گا۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ  
عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ  
لَهُ أَجْرًا ۝

۷  
۱-۶-۲۸ ۱/۱۳-۸/۱۳

اور باہم مناسب طور پر طے کر  
لیا کرو۔

وَالْتِمُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ ۝

۸  
۱-۷-۲۸ ۲۶/۱۲

وسعت والے کو خرچ یونہی وسعت  
کے موافق کرنا چاہیے

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ  
سَعِيهِ ۝

۹  
۲-۱۱-۲۸ ۱۱/۱۳

قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ  
رِمَقًا ۝

بیشک اللہ نے ایسے شخص کو بہت  
ہی اچھی روزی دی ہے۔

## التَّحْرِيمُ

قَالَ نَبَأُنِي الْعَدِيمُ  
الْخَبِيرُ ۝

۱-۳-۲۸ ۱/۵

اپنے کہا مجھے خبر دی بر علم رکھنے  
والے اور میری خبر رکھنے والے نے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ  
نَارًا ۝

۱-۴-۲۸ ۲/۸

اے ایمان والو! بچاؤ اپنے آپ  
کو اور اپنے گھر والوں کو آگ  
سے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً  
تَّصَوُّحًا ۝

۱-۸-۲۸ ۳/۶

اے ایمان والو! اللہ کے پاس  
بھی توبہ کرو۔

تَوْرَهُمْ وَيَسْعَىٰ بَيْنَ  
أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِيهِمْ  
يَقُولُونَ ۝

۲-۸-۲۸ ۴/۲۱-۱۱۷۴

ان کا نور دوزخ رہا جو ان کے پاس  
اور ان کے دانت اور دانت  
باتے بول گئے۔

۲-۸-۲۸ ۱۱۷۱-۱۱۷۴

زَبَبْنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورَنَا  
وَاعْفِرْ لَنَا

اے ہمارے پروردگار ہمارے لئے ال نور  
کو اخیر تک رکھینو اور ہماری مغفرت کریو

## ۶۷ الْمَلِكُ

۱/۱۳ ۱-۲-۲۹

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ  
وَالْحَيَاةَ يَبْبُوكُمُ  
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ  
عِبَادًا

اور وہی ہے جس نے موت اور  
زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں  
آزمائے کہ عمل میں کون بہتر  
ہے۔

۲/۱۱ ۱-۳-۲۹

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ  
سَّمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى  
فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ  
مِنْ تَفْوُوتٍ فَارْجِعِ  
الْبَصَرَ هَلْ تَرَى  
مِنْ فُطُورِهِ

جس نے سات آسمان تہ بہ تہ  
پیدا کر دیئے تو (خدا کے) رحمن  
کی صفت میں کوئی فتور نہ دیکھے  
گا سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھے  
کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا  
ہے؟

۳/۱۱ ۱-۴-۲۹

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ  
كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ  
الْبَصَرُ حَاسِبًا وَهُوَ

پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ  
نگاہ (دہا آخر) ذلیل و در ماندہ  
ہو کر تیری طرف لوٹ آئے



گی۔

حَسِيرٌ ۵

۲۹-۵-۱

گویا ابھی غصہ سے پھٹنے کو  
ہے۔

لَتَكَادُ تَمَيُّزٌ مِّنَ  
الْغَيْظِ ط

۲۹-۱۳-۵

اور تم لوگ انخواہ چھپا کر کہو یا  
پکار کر۔ وہ دونوں تک کی بات  
سے خوب آکا رہے۔

وَ اسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْ  
اجْهَرُوا بِهِ ۵ اِنَّ تَلِيْمًا  
يَذَاتِ الصُّدُوْرِ ۵

۲۹-۱۹-۶

ایسا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں  
پر نظر نہیں کی کہ یہ پر پھیلائے ہوئے  
ہیں اور سمیٹ بھی جیتے ہیں انہیں  
کوئی اور نہیں تھا مے رکھتا ہے۔  
بعض خدائے جہان کے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى  
الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ  
وَيَقْبِضْنَ ۵ مَا  
يُنْسِكُهُنَّ اِلَّا  
الرَّحْمٰنُ ۵

۲۹-۲۲-۵

اگر ہم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۵

## ۴۸ الْقَلْبُ

۲۹-۳-۱

بیشک آپ کے لیے ایسا اجر ہے

وَاِنَّ لَكَ لَآ تَجْرًا غَيْرًا

مَمْنُونٍ ۵

جو ختم ہونے والا نہیں۔

۱-۲۹-۲۲۷

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ  
عَظِيمٍ ۵اور بیشک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ  
پر ہیں۔

۱-۱۰-۲۹ ۳/۲۲/۱۰-۳/۵

وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَاٰفٍ  
مَّهِيْنٍ ۵اور آپ ایسے شخص کا بھی کہنا نہ مانیں  
جو بڑا قسب کھانے والا ہے۔

۱-۱۴-۲۹ ۲/۲۲/۱۰-۱/۳۰

إِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرُ  
مُنْهًا مُّصْبِحِينَ وَلَا  
يَسْتَنْوُونَ ۵جبکہ ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اس  
کا پھل ضرور صبح چل کر توڑیں گے اور  
انہوں نے انشا اللہ بھی نہیں کہا تھا۔

۱-۱۹-۲۹ ۲/۲۲

فَنَطَافَ عَيْرَهَا طَائِفٌ  
مِّن رَّيْبِكَ وَهُمْ  
تَائِعُونَ ۵سو اس (باغ) پر آپ کے پروردگار  
کی طرف سے ایک پھیرنے والا (عذاب)  
پھیر گیا اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے۔

۲-۲۳-۲۹ ۲/۱۵۵

حَاشِيَةً أَبْصَارُهُمْ  
تَرَاهُمْ ذَلَّةً ۵انکی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر  
ذلت چھائی ہوگی۔

۲-۵۲-۲۹ ۲/۲۲/۵

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ  
لِّلْعَالَمِينَ ۵حالانکہ یہ قرآن نصیحت ہی نصیحت  
ہے دنیا جہاں والوں کیلئے۔

# الحاقۃ

۱/۲۳ ۲۹-۶-۱

كَاتَرَهُمْ أَعْبَازُ نَخْلٍ  
خَاوِيَةٍ ۝

کہ گویا وہ گری ہوئی کھجور کے تنے  
پڑے ہیں۔

۱/۲۳ ۲۹-۱۱-۱

فَنَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ  
فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً  
رَّابِيَةً ۝

تو انہوں نے اپنے پروردگار کے رسول  
کی نافرمانی کی سو اللہ نے ان کو  
بہت سخت پکڑ لیا۔

۱/۲۵ ۲۹-۱۲-۱

فَأَمَّا مَنْ أَدْرَقَ  
كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ  
فَيَقُولُ هَذَا مَا فَرَّوْا  
كِتَابِيَةَ ۝

تو جس شخص کا نام لعل اس کے  
دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ  
کہے گا لو میرا نام اعمال پر ہے  
لو۔

۱/۲۵ ۲۹-۲۱-۱

وَنَهَوْا فِي بَيْتِهِ  
رَاضِيَةً ۝

تو وہ شخص خوب مزے کے عیش  
میں ہو گا۔

۱/۲۸ ۲۹-۲۲-۱

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

بہشت بریں میں ہو گا۔

۱/۵۵ ۲۹-۲۴-۱

کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان  
اعمال کے بدلہ میں جو تم گذشتہ ایام  
میں کر چکے ہو۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا  
هَنِيئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ  
فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

۲۶/۳ ۲۹-۳۲-۱

اور نہ یہ غریب آدمی کے کھلانے کی  
ترغیب دیتا تھا۔

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ  
الْمِسْكِينِ

۲۲/۴ ۲۹-۲۸-۱

اور یہ (قرآن) بیشک نصیحت ہے  
متقیوں کیلئے۔

وَ اِنَّهُ لَتَذْكُرَةٌ  
لِّلْمُتَّقِيْنَ

## المَعَارِجُ

سو آپ صبر کیجئے اور صبر بھی  
جیل۔

فَاَصْبِرْ صَبْرًا  
جَيِّدًا

۲/۱۱۵ ۲۹-۱۹-۱

انسان بے ہمت پیدا ہوا  
ہے۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ  
هَلْوًا

۳/۲۶/۳۳ ۲۹-۲۳-۱

جو اپنی نماز میں برابر لگے رہتے ہیں۔

الَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ  
دَائِمُونَ

.....

۴  
۱/۱۳ ۲۹-۲۱-۱

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ  
مَّعْلُومٌ مِّمَّا لِبَنَاتِهِمْ  
الْمَحْرُومَةُ

اور جو اپنے مال میں حق رکھتے  
جانا ہوا سوالی اور بے سوالی  
(سب) کا۔

۵  
۲۲۶/۲۲ ۲۹-۲۹-۱

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاهِهِمْ  
حِظٌّ

اور جو لوگ کراہتی شہر مریکا ہوں کو محفوظ  
رکھنے والے ہیں۔

۶  
۲۲۶/۲۲ ۲۹-۲۹-۱

وَالَّذِينَ هُمْ بِبَنَاتِهِمْ  
يَتَّقُونَ

اور جو لوگ اپنی کواہتوں سے ڈرتے  
کرتے والے ہیں۔

۷  
۲۲۶/۲۲ ۲۹-۲۲-۱

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى  
صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ  
أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ  
مَّكْرُمُونَ

اور جو لوگ اپنی نمازوں کی  
پابندی رکھتے ہیں۔ یہی لوگ  
بہشتوں میں عزت سے داخل  
ہوں گے۔

## نوح

۱  
۱/۸-۱/۲۸ ۲۹-۳-۱

إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا

(یہ یاد دلا) کہ تم اللہ کی عبادت کرو  
اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔

۲  
۳/۱۴ ۲۹-۱-۱

اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو بیشک  
وہ بڑا بخشنے والا ہے۔

اِسْتَغْفِرْ وَاَرْتَبِكُمْ اِنَّهٗ  
كَانَ عَفْوًا رَّاهٗ

۲۹-۱۱-۱

وہ تم پر کثرت سے بارش بھیجے  
گا۔

يُرْسِلِ السَّمَاۗءَ عَلَيْكُمْ  
مَدَدًا رَّاهٗ

۲۹-۱۲-۱

اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی  
دے گا۔

وَيُمِدُّكُمْ بِاَمْوَالٍ  
وَبَنِيۡنٍ -

۲۹-۱۲-۵

اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور  
تمہارے لیے دریا بہا دے گا۔

وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَّ  
يَجْعَلُ لَكُمْ اَنْهٰرًا

۲۹-۱۵-۲

کیا تم نے اس پر نظر نہیں کیا کہ اللہ  
نے کس طرح سات آسمان تہ بہ تہ  
پیدا کیے۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ  
خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ  
طَبَقًا

۲۹-۱۶-۶

اور ان میں چاند کو نور (کی چیز)  
بنایا اور آفتاب کو چراغ (کی طرح)  
روشن بنایا۔

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْ هِيَۡنٍ  
نُّوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسُ  
سِرَاجًا

۲۹-۲۸-۸

اے میرے پروردگار مجھے بخش اور میرے

رَبِّ اَغْفِرْ لِيْ وَّلِيُوْا۟لِدِيْ

ماں باپ کو، اور جو بھی میرے گھر میں داخل  
ہو بحیثیت مومن کے اور کل ایمان  
والوں اور ایمان والیوں کو۔

وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي  
مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ -

## الجن

۱-۱-۲۹ ۲۲/۵

پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب  
قرآن سنا ہے۔

فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا  
عَجَبًا

۱-۲-۲۹ ۲۲/۵

جو راہ راست بتلاتا ہے سو ہم تو  
اس پر ایمان لائے۔

يَهْدِي إِلَى التَّرْشِيدِ  
فَأَمَنَّا بِهِ

۱-۱۱-۲۹ ۲۲/۳۰

اور ہم میں نیک بھی ہوتے ہیں اور  
ہم میں بعض اور طرح کے انغمض ہم  
مختلف طریقوں کے تھے۔

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ  
وَمِنَّا ذُونَ ذَلِكَ كُنَّا  
كِرَآئِنَ قَدَدَاةٍ

۱-۱۳-۲۹ ۲۲/۳۰

اور ہم نے جب ہدایت کی بات  
سن لی تو ال پر ایمان لائے۔

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الرَّهْدَى  
أَمَنَّا بِهِ -

۱-۱۴-۲۹ ۲۲/۳۰

اور ہم میں بعض مسلم ہیں اور بعض غیر ہیں

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا

الْقَسِطُونَ ۝

سے بے راہ ہیں۔

۱-۱۸-۲۹ ۲۶/۱۳۳

وَ أَنْ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ

اور جتنے سجدے ہیں (رب) اللہ کا

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ

حق ہیں سو اللہ کے ساتھ کسی (اور)

أَحَدًا ۝

کو مت پکارو۔

۲۰-۲۰-۲۹ ۲/۵

فَلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي

آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس اپنے پروردگار

وَلَا أُشْرِكُ بِهِ

ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اُس کے ساتھ

أَحَدًا ۝

کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔

۲-۲۲-۲۹ ۴/۵

مَنْ أضعِفُ نَاصِرًا وَ

تو اس وقت جان لیں گے کہ مددگار کس کے

أَقَلُّ عَدَدًا ۝

کمزور ہیں اور تعداد کس کی کمتر ہے۔

۲-۲۶-۲۹ ۲۰/۳۳-۱/۱۳۳

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا

اور وہ ہی غیب کا جاننے والا ہے

يُظهِرُ عَلَى غَيْبِهِ

سو وہ (ایسے) غیب پر کسی کو بھی

أَحَدًا ۝

مطلع نہیں کرتا۔

۲-۲۴-۲۹ ۱/۱۳۳

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ

ہاں البتہ کسی برگزیدہ پیغمبر

رَسُولٍ ۝

کو۔



# المزمل

۱/۳۳ ۲۹-۴-۱

وَرَقِیۡلٍ اِلۡتَرٰ اِنۡتَ  
تَرۡتَبِلًا ؕ

اور قرآن خوب صاف صاف صاف  
پڑھیے۔

۲/۲۱ ۲۹-۶-۱

اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ  
هِيَ اَشَدُّ وَطْأًا وَاَقْوَمُ  
قَبْلًا ؕ

بیشک رات کے وقت اٹھنے میں  
(دل و زبان کا) خوب میل رہتا ہے  
اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔

۳/۵ ۲۹-۷-۱

اِنَّ لَكَ فِی النَّهَارِ سَبْحًا  
طَوْبًا ؕ

بیشک آپ کے لئے دن میں بہت  
مشغولی ہے۔

۴/۵ ۲۹-۱۰-۱

وَاصْبِرْ عَلٰی مَا  
یَقُولُوْنَ

اور ان باتوں پر صبر کئے  
رہیے۔

۵/۴ ۲۹-۱۸-۱

كَانَ وَعْدًا  
مَفْعُوْلًا ؕ

بیشک (اللہ کا) وعدہ ضرور پورا  
ہو کر رہے گا۔

۴/۵ ۲۹-۱۹-۱

اِنَّ هٰذِهِ تَذٰكِرَةٌ ؕ

یہ (قرآن) ایک نصیحت ہے۔

۱-۱۹-۲۹  $\frac{۴}{۱۳۳}$ 

سو بس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی  
طرف کار راستہ اختیار کرے۔

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ  
رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ

۲-۲۰-۲۹  $\frac{۸}{۱۳۳}$ 

سو تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا  
جائے پڑھ لیا کرو۔

فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ  
الْقُرْآنِ ط

۲۲/۶-۱۵/۱۳-۱۲/۳-۶/۱۳  $\frac{۹}{۱۳۳}$ 

۲-۲۰-۲۹

اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ  
دیتے رہو اور اللہ کو اچھی طرح  
قرض دو اور جو بھی نیک عمل اپنے  
یسے آگے بھیج دو گے اُس کو اللہ کے  
پاس پاؤ گے۔

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللّٰهَ  
قَرْضًا حَسَنًا ط وَمَا  
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ  
خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ۔

## الْمُدَّثِّرُ

۱-۱-۲۹  $\frac{۱}{۱۳۳}$ 

اے کپڑے میں پٹنے والے۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۚ

۱-۲-۲۹  $\frac{۲}{۱۳۳}$ 

اٹھیے پھر (کافروں کو) ڈرائیے۔

فَتَمَّ فَاذْرُؤْهُنَّ

۱-۳-۲۹  $\frac{۳}{۱۳۳}$

وَرَأَيْتَكَ فَكَبَّرَهُ ۝

اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے۔

۲۹-۳-۱

وَرَأَيْتَكَ فَطَهَّرَهُ ۝

اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔

۲۲/۱۳-۱/۳۲-۱-۱۳۵

۲۹-۳۱-۱

وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جن دلوں میں مرض

مَرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَا

ہے اور کافر لوگ کہیں کہ آخر خدا کا

ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا

مقصود اس بیان سے کیا

مَثَلًا ۝

ہے۔

۲۶/۳۰-۲۹-۲۳-۲

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ

وہ کہیں گے ہم تو نہ نماز پڑھارتے

الْمُصَلِّينَ ۝

تھے۔

۲۶/۳۰-۲۹-۲۳-۲

وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ

اور نہ ہم عزیز کو کھانا کھلایا کرتے

الْمِسْكِينِ ۝

تھے۔

۱/۸۳-۲۹-۵۶-۲

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْتَ

اور نصیحت تو یہ لوگ اس صورت میں حاصل

يَشَاءُ اللَّهُ ۝

کریں گے جب اللہ کی مشیت ہوگی۔

۲۶/۲۲-۲۶/۲۲-۲۹-۵۶

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ

وہی ہے ڈرنے کے قابل اور (وہی)

الْمُغْفِرِينَ ۝

مغفرت والا ہے۔

## القیامۃ

۱-۱۴-۲۹ ۲۴/۲۲

بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان خود ہی اپنی  
حالت پر خوب مطلع ہوگا۔

بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ  
بَصِيرَةٌ ۝

۱-۱۶-۲۹ ۲۲/۵-۲۱/۵

یہ تو ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا  
اور اسکو پڑھوانا۔

إِن عَلَيْنَا جُمُعَةٌ وَ  
قُرْآنَةٌ ۝

۱-۲۲-۲۹ ۱۹/۲۰

دکتنے ہی چہرے اس روز بنائش  
ہوں گے۔

وَجُوهٌ يُّوْمِتٌ  
نَاضِرَةٌ ۝

۲-۲۹-۲۹ ۳/۵

اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹنے  
لگی۔

والتفتت الساق  
بِالساق ۝

۲-۳۱-۲۹ ۲۴/۲۲

اس (کافر) نے نہ تو تصدیق کی تھی اور  
نہ نماز پڑھی تھی۔

فَلَا صَدَقَ وَلَا  
صَلَّىٰ ۝

۲-۳۲-۲۹ ۱/۱۵۲

بلکہ تکذیب کی تھی اور منہ موٹا  
تھا۔

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَ  
تَوَلَّىٰ ۝

۲۰۳۳-۲۹ ۱/۱۵۲

پھر فخر کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا  
تھا۔

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
يَتَمَتَّعُ ۝

۲۰۳۴-۲۹ ۱/۱۳۴

کیا انسان ایک خیال میں بے کرا سے  
یونہی چھوڑ دیا جائے گا۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ  
يُتْرَكَ سُدًى ۝

۲۰۳۵-۲۹ ۱/۱۶

تو کیا ایسی (ذات) اس پر قدرت نہیں  
رکھتی کہ مردوں کو زندہ کر دے۔

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ مَنْ  
يُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۝

## الدَّاهِرُ ۶۶

۱-۳-۲۹ ۱/۱۳۱

ہم ہی نے اسکو راستہ بتایا (پھر) یا تو وہ  
شکر گزار (ہوا) یا کافر (ہو گیا)

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا  
شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝

۱-۵-۲۹ ۱۴/۳

بیشک نیک لوگ ایسے جام پینیں گے  
جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَشَرَّ بُونَ مِنْ كَاهِنٍ  
كَانَ مِنْ أَجْرِهَا كَافُورًا ۝

۱-۷-۲۹ ۲۴/۳

یہ لوگ واجبات کو پورا کرتے رہتے  
ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں  
جس کی سختی عام ہوگی

يُؤْفُونَ بِالتَّذْوِيرِ وَيَخَافُونَ  
يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

۱-۱۱-۲۹ ۱/۲۶

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ  
مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

اور کھانا کھلاتے رہتے ہیں مسکینوں  
یتیموں اور غریبوں کو اللہ کی محبت سے

۵  
۱۱/۲۳  
۱-۶-۲۹

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ  
لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا  
تُكْرًا

ہم تو تم کو بس اللہ کی خوشنودی کے لیے  
کھانا کھلاتے ہیں اور نہ تم سے (اس  
کا) عوض چاہیں اور نہ شکریہ۔

۶  
۱۲/۵  
۱-۲۱-۲۹

وَسَقَرَهُمْ رَبُّهُمْ شَرًّا  
بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا

اور ان کا پروردگار ان کو پاکیزہ شراب  
پینے کو دے گا۔

۷  
۱۳/۵  
۲-۳۱-۲۹

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ  
يَشَاءَ اللَّهُ

اور تم چاہ بھی تو بس وہی کہتے ہو  
جو اللہ چاہے۔

## الْمُرْسَلَاتُ

۱  
۲۶/۵  
۱-۲۰-۲۹

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ  
مَّهِينٍ

کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی  
سے نہیں بنایا ہے؟

۲  
۳۱/۱  
۱-۲۴-۲۹

وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا

اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔

۳  
۱۷/۳۱  
۲-۲۲-۲۹

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ

پر ہمیزگار لوگ بے شک سایوں اور

عُيُونٌ ۱

چشموں میں ہوں گے۔

۲۱/۱۶ ۲۹-۳۲-۲

وَهُوَ آيَةٌ مِّمَّا يَشْتَرُونَ ۲

اور مرغوب میوں میں ہوں گے۔

۲۸/۴ ۲۹-۳۳-۲

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا

خوب مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۳

کے صلے میں۔

۱۲/۳۶ ۲۹-۳۳-۲

اِنَّكَ ذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۴

ہم نیک کاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔

۳۰/۲۶ ۲۹-۳۸-۲

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَعُوا لآ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے جھکو

يُرْكَعُونَ ۵

تو نہیں جھکتے۔

۱۶/۴۸-۲۸ ۲۹-۳۹-۲

وَبِئْسَ يَوْمٌ مِّذَّبٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۶

بڑی خرابی ہے اس روز جھٹلانے

والوں کیلئے۔

۳۳/۱۱ ۲۹-۵۰-۲

فَبَاقِيَ حَدِيثٍ ۱ بَعْدَهُ ۷

انہر میں اس قرآن کے بعد اس

يَوْمٍ مِّنْهُنَّ ۸

بات پر ایمان لائیں گے۔

## النبا

۳۱/۲۶ ۳۰-۳۰-۱

ہرگز ایسا نہیں کہ اقیامت نہ آئے

كَلَّا سَيَعْبَثُونَ ۹

گی، انکو ابھی علوم ہوا جاتا ہے۔

۴/۱۳ ۳۰-۴-۱

آلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۝  
کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا ہے۔

۳۰-۸-۱-۳۱

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝  
اور ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا۔

اور ہم ہی نے تمہاری نمیند کو راحت

۳۱-۹-۱-۳۲

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝  
(کافر لیں) بنا دیا۔

۳۱-۱۰-۱-۳۳

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝  
اور ہم ہی نے رات کو پردہ کی چیز بنا دیا۔

۳۱-۱۱-۱-۳۴

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝  
اور ہم ہی نے دن کو معاش (کا وقت) بنا دیا۔

۳۱-۲۶-۱-۳۵

جَزَاءً وَفَاءً ۝  
(یہ) مناسب حال بدلہ ہے۔

۳۱-۲۵-۲-۳۶

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ  
لَا كِذْبًا ۝  
وہاں (جنت میں) نہ کوئی بیہودہ باتیں  
نہیں گے اور نہ جھوٹ۔

۳۱-۳۹-۲-۳۷

ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ ۚ فَلَمَنْ  
شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ  
مَآبًا ۝  
یہ یقینی دن ہے سو جو چاہے اپنے  
پروردگار کے پاس اپنا ٹھکانا  
بنائے۔

۳۱-۴۰-۲-۳۸

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يُلَدِّيَنِي  
كُنْتُ تُرَابًا ۝  
اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو  
جاتا۔

۳۸-۲۱۳-۲-۳۹



## النزعت<sup>۴۹</sup>

۱-۸-۳۰ ۲۲/۱۳  
 قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝

بہت سے دل اُس روز دھڑک رہی ہوں گی۔

۱-۶-۳۰ ۱۷/۵۵  
 أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝

انکی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔

۱-۲۶-۳۰ ۱۹/۳  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى ۝

بیشک اِس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہے  
 اُسکے لیے جو خشیت رکھتا ہو۔

۶/۸-۲۰/۲۲-۱/۸۰  
 ۳۰-۳۱-۳۲

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَمَّا مَتَّامَ  
 رَبِّهِمْ وَذَهَى النَّفْسَ مِنَ  
 الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ  
 الْمَأْوَىٰ ۝

اور جو کوئی ڈرا ہو گا اپنے پروردگار  
 کے سامنے کھڑا ہونے سے اور نفس کو  
 خواہش سے روکا ہو گا تو ایسے کا  
 ٹھکانا جنت ہی ہے۔

## عیس

۱-۱۱-۳۰ ۲۲/۵  
 كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

برگزایا نہ کہتے قرآن تو بس ایک نصیحت ہے۔

۱-۱۲-۳۰ ۲۲/۵  
 فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ ۝

جو جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔

۳۰/۱۶-۱

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

جو بڑے درجہ والے نیک کار۔

۳۰/۳۲-۱

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے  
فائدے کیلئے۔

۳۰/۳۸-۱

وَجُودًا يَوْمَ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ ۝

بہت سے پھلے اس روز چمکتے ہوئے۔

۳۰/۳۹-۱

صَاحِبَةً مُّسَبِّحَةً ۝

ہنستے ہوئے بشارت ہوں گے۔

## التکویر

۳۰/۳-۱

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

جب پہاڑ چلا دیئے جائیں گے۔

۳۰/۱۳-۱

وَإِذَا الْجِبَّةُ أُرْلِفَتْ ۝

اور جب جنت کو نزدیک کر دجائے

(اس وقت) ہر شخص جان لیگا (ان

اعمال کو جنکو) وہ لے کر آیا۔

۳۰/۱۴-۱

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝

کہ یہ قرآن، ایک کلام ہے ایک معزز

قاصد (جبریل فرشتہ) کا لایا ہوا۔

۳۰/۱۹-۱

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

جو قوت والا ہے اور ذی مرتبہ ہے

مالک عرش کے نزدیک۔

۳۰/۲۰-۱

ذِي هُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ

مَكِينٍ ۝

۶/۱۳ ۱-۲۱-۳۰

مُطَاعٍ شَتَا مِیْنَهُ

وہاں اُسکا کہا مانا جاتا ہے اور وہ امانتدار ہے (یعنی دوسرے فرشتے اُسکے زیرِ حکم میں)

۶/۵ ۱-۲۲-۳۰

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَجُنُونٍ

اور (یہ محمدؐ) تمہارا سنا تھی مجنون نہیں ہیں۔ یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے دنیا جہاں

۲۳/۵ ۱-۲۶-۳۰

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

والوں کے لیے۔

## الانفطار<sup>۸۲</sup>

۶/۱۳ ۱-۵-۳۰

عَدِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

(تو اس وقت) ہر شخص اپنے اکلے اور پینے والے اعمال کو جان لے گا۔

وَأَخَّرَتْ

۲/۴ ۱-۶-۳۰

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ

اے انسان تجھے (آخر تک پڑنے اپنے پروردگارِ کریم سے متعلق بھول میں ڈال رہا ہے)

بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

۳/۸ ۱-۸-۳۰

فِي آيٍ صُورَةٍ مَّا سَنَّاءُ

(اور) جس صورت (امن تقویم) میں بھی پایا تجھے ترتیب سے دیا۔

رَكَّبَكَ

۲/۴ ۱-۱۰-۳۰

فَلَنْ عَلَيْكَ لَحْنٌ طِينٍ

وہاں ایک تہبارے اوپر (ہماری طرف سے) ایسا رکھنے والے سقر میں۔

۲/۴ ۱-۱۱-۳۰

معزز لکھنے والے (مقرر) میں۔

كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝

۶/۱۳-۱۳-۱

نیک لوگ بیشک آرائش میں ہوں گے۔

رَاتِ الْاَبْرَارِ اِنِّی نَعِیْمٌ ۝

۶/۱۲-۱۲-۱

اور بدکار لوگ بیشک دوزخ میں۔

وَرَاتِ الْفُجَّارِ اِنِّی جَحِیْمٌ ۝

۸/۲۲-۱۹-۱

وہ دن وہ ہے کہ کسی کا کسی کے لیے کچھ

یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ

بھی بس نہ چلے گا۔

لَتَنْفَسٍ نَّیْسًا ط

## التطفیف

بڑی خرابی ہے (ناپ تول میں) کمی

۱/۱-۱-۳۰ ۲۴/۱-۲۴/۳۰

کرنے والوں کی۔

وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝

۲/۱-۲-۳۰ ۲۴/۱

کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں پورا

الَّذِينَ اِذَا كَتَلُوا عَلٰی

ہی لے لیں۔

النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝

۳/۲۴-۳-۱-۳۰ ۲۴/۲۴-۳/۲۴

اور جب انھیں ناپ کر یا تول کر دیں تو

وَ اِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَّزَنُوهُمْ

گھٹادیں۔

يُخْسِرُونَ ۝

۴/۱۳-۱۳-۱ ۷۲۹

داور جب اُسے ہماری آیتیں سنائی جاتی ہوں

اِذَا تَتْلٰی عَلَیْهِ اٰیٰتِنَا

تو کہتا ہو کہ یہ تو اگلوں کے خرافات ہیں۔

قَالَ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ

ہرگز ایسا نہیں کہ (جزار و سزار زمیں)  
بیشک نیک کاروں کا نامہ عمل علیین  
میں رہے گا۔

۱-۱۸-۳۰  $\frac{۵}{۷/۸-۱/۳}$

كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ  
يَفِي عٰلِيْنَ ؕ

بیشک نیک کار بڑی راحت میں ہوں گے۔

۱-۲۲-۳۰  $\frac{۶}{۱/۳}$

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَفِي نَعِيْمٍ ؕ

انہیں پینے کو شرابِ خالص مہزودہ ملے گی  
جس پر بیشک کی مہر ہوگی۔

۱-۲۶ ۲۵-۳۰  $\frac{۷}{۱۳/۵}$

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْمٍ  
مَخْتُوْمٍ ۙ خِيْمَةٌ مِّسْكٌ ۙ

## الانشاق

تو جس کسی کا نامہ اعمال اُس کے داہنے  
ہاتھ میں ہوگا۔

۱-۷-۳۰  $\frac{۱}{۱/۳۵}$

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبًا  
بِيَمِيْنِهٖ ؕ

سو اس سے آسان حساب لیا  
جائے گا۔

۱-۸-۳۰  $\frac{۲}{۱/۳۵}$

فَسُوْفَ يُحٰسِبُ حِسَابًا  
يَسِيْرًا ۙ

اور وہ اپنے والوں کے پاس خوش  
خوش لوٹ کر آئے گا۔

۱-۹-۳۰  $\frac{۳}{۱/۳۵}$

وَيَقْلِبُ اِلٰى اٰهْلِهٖ  
مَسْرُوْرًا ۙ

اور جس کسی کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے

۱-۱۰-۳۰  $\frac{۴}{۱/۳۳}$

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبًا  
مِنْ وَّرَآئِهٖ ۙ

پہچھے سے ملے گا۔

ظہر ۵ ۵

۱-۱۱-۳۰ ۵/۱۲۳

سو وہ موت کو لپکے گا۔

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا

۱-۲۵-۳۰ ۶/۱۲۲

البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے  
اچھے عمل کئے ان کیلئے تو ایسا اجر ہے  
جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ  
مَمْنُونٍ ۚ

## البروج ۸۵

۱-۱۱-۳۰ ۱/۲۳/۲-۲۱/۵

اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

بیشک آپ کے پروردگار کی داروگیر  
بڑی سخت ہے۔

۱-۱۲-۳۰ ۲/۱۱۲

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝

۱-۱۶-۳۰ ۳/۱۴۳

وہ جو چاہے سب کچھ کر گذرتا ہے۔

فَعَالٌ لِّمَآئِرٍ ۝

اور اللہ انہیں ادھر ادھر سے گھیرے  
ہوئے ہے۔

۱-۲۰-۳۰ ۴/۱۱۲

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝

## الطارق ۸۶

۱-۴-۳۰ ۱/۸۱

کوئی جان ایسی نہیں کہ اس پر ایک یاد رکھنے

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا

حَافِظًا ۞

والا (فرشتہ) مقرر نہ ہو۔

۱۳/۱۹ ۲/۳۰-۱۶-۱

وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞

اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔

## الاعلیٰ

۱/۱۳۳ ۱-۶-۳۰

ہم آپ کو (قرآن) پڑھا دیا کریں گے

سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى ۞

پھر آپ (اُسے) نہ بھولیں گے۔

۱۳/۶ ۲/۳۰-۱۲-۱

بامراد ہوا وہ جو پاک ہو گیا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَىٰ ۞

اور اپنے پروردگار کا نام لیتا اور

۱/۱۸۳ ۳/۳۰-۱۵-۱

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۞

مناسز پڑھتا رہا۔

۱/۱۸ ۲/۳۰-۱۶-۱

مالانکہ آخرت بدتر ہو جائے اور پائیدار ہے

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞

## الغاشیہ

۱/۲ ۳۰-۸-۱

بہت سے پہرے اکل روز بارونق ہوں گے۔

وَجُودَهُ يَوْمَ مِيزَانٍ ۞

۱-۹-۳۰ ۲/۴

اپنے کام کی بدولت خوش ہوں گے۔

لِسَعِيدٍ رَاحِيَةٍ ۞

۱-۲۲+۲۱-۳۰ ۳/۵

تو آپ نصیحت کر دیا کیجئے، آپ تو دف

فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞

مَذَكَّرَةٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ  
بِمُصِيطِرَةٍ  
نصیحت ہی کرنے والے میں آپ ان پر  
کچھ مستط تو ہیں نہیں۔

## الفجر<sup>۸۹</sup>

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ  
مَلَا  
۱-۱۱-۳۰ ۱۲/۱۸-۲۶/۵  
جن (سب) نے شہروں میں سراٹھا رکھا تھا۔

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ  
۱-۱۲-۳۰ ۲/۱۱۳  
بیشک آپ کا پروردگار تاک میں ہے

كَلَّا بَلْ لَأُتَكْرِمُونَ  
الْيَتِيمَ  
۱-۱۶-۳۰ ۳۳/۲  
اصل یہ ہے کہ تم لوگ یتیم کی قدر نہیں  
کرتے۔

وَلَا تَحْضُرُونَ عَلَىٰ طَعَامِ  
الْيَتِيمِ  
۱-۱۸-۳۰ ۲۴/۳۳  
اور دوسروں کو بھی مسکین کے کھانا دینے  
کی ترغیب نہیں دیتے ہو۔

وَمَا كُنُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا  
لَتَنَاءَ  
۱-۱۹-۳۰ ۲۶/۳۶  
اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر  
کھا جاتے ہو۔

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا  
۱-۲۰-۳۰ ۲۶/۲  
اور مال سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمِئِنَّةُ  
۱-۲۸+۲۶-۳۰ ۲۴/۲۳  
اے اطمینان والی روح تو اپنے



ادْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ سَاجِدَةً  
مَرْضِيَّةً ۝

پروردگار کی طرف چل بخوش ہوئی ہوئی  
اور خوشی کرتی ہوئی۔

۱-۲۹-۳۰ ۱/۲۷

فَاَدْخُلِي فِي عِبَادِي ۝

پھر تو میرے (خاصی) بندوں میں شامل ہو جا۔

۱-۳۰-۳۱ ۹/۶۸

وَاَدْخُلِي جَنَّتِي ۝

اور میری جنت میں جا داخل ہو۔

## البَلَدُ ۹۰

۱-۲-۳۰ ۱/۱۳۲

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي  
كَبَدٍ ۝

کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت کیلئے  
پیدا کیا ہے۔

۱-۱۰-۳۰ ۲/۱۱

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

اور ہم ہی نے کئے دونوں راستے  
بتلا دیئے۔

۱-۱۴-۳۰ ۳/۷۸-۱۵/۶

وَتَوَّاصَوْا بِالصَّابِرِينَ تَوَّاصَوْا  
بِالْمَرْحَمَةِ ۝

اور (جنہوں نے) ایک دوسرے کو  
ثبات کی فہمائش کی اور ایک دوسرے  
کو رحم کی فہمائش کی تھی۔

## الشمس ۹۱

۱-۹-۳۰ ۱/۲۷

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

کہ وہ یقیناً بامراد ہو گیا جس نے اپنی  
جان کو پاک کر لیا۔

## الْبَيْلُ ۹۲

- ۱-۵-۳۰  $\frac{1}{18}$   
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝  
سو جس نے دیا اور (اللہ سے) ڈرا۔
- ۱-۶-۳۰  $\frac{2}{15}$   
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝  
اور اچھی بات کی تصدیق کی۔
- ۱-۷-۳۰  $\frac{3}{31}$   
فَسَنِيَّسِرُهُ لِّلْيُسْرَى ۝  
سو ہم اس کیلئے راحت کی چیز آسان کر دیں گے۔
- ۱-۱۹-۳۰  $\frac{4}{4}$   
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن جُنْدٍ  
تَعْمَرُ تَجْزَى ۝  
اور اُسکے اوپر کسی کا اسمان نہیں کہ  
وہ اُسکا بدلہ اتارے۔
- ۱-۲۰-۳۰  $\frac{5}{17}$   
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ  
الْأَعْلَى ۝  
بلکہ وہ صرف اپنے مالیشان پروردگار  
کی رضا جوئی کیلئے کرتا ہے۔
- ۱-۲۱-۳۰  $\frac{6}{7}$   
وَلَسَوْدَى يَرْضَى ۝  
اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔

## الضُّحَىٰ ۹۳

- ۱-۳-۳۰  $\frac{1}{5}$   
مَا وَدَّكَ رَبُّكَ وَمَا  
قَلَىٰ ۝  
کہ آپ کے پروردگار نے آپکو چھوڑا ہے  
اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔

۱-۵-۳۰ ۲/۵

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ  
فَاتَرْضَىٰ ۝  
اور عنقیب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے  
گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔

۱-۹-۳۰ ۳/۵

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝  
تو آپ بھی یتیم پر سختی نہ کیجئے۔

۱-۱۰-۳۰ ۴/۵

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝  
اور سائل کو مت جھڑکئے۔

۱-۱۱-۳۰ ۵/۵

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ  
فَحَدِّثْ ۝  
اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ  
بھی کرتے رہا کیجئے۔

## الشرح<sup>۹۴</sup>

۱-۲-۳۰ ۱/۵

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝  
اور آپ کی خاطر آپ کا آواز بلند کرویا۔

۱-۵-۳۰ ۲/۵

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝  
سو مشکلات کیساتھ آسانی ہونی والی ہے۔

## التین<sup>۹۵</sup>

۱-۳-۳۰ ۱/۱۱

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝  
اور (قسم) اہل امن والے شہر کی۔

۱-۳-۳۰ ۲/۱۰۵

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝  
ہم نے انسان کو بہترین انداز کے ساتھ پیدا کیا۔

## العلق

جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔  
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

جس نے قلم کے ذریعہ سے تعلیم دی۔  
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝

جس نے انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔  
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

## القدر

بیشک ہم نے اسے (قرآن کو) شب قدر میں اتارا۔  
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

شب قدر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔  
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

## البینة

۱-۵-۳۰ ۱/۱۲

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
التَّزَكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ  
الْقَيِّمَةُ

اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ  
دیا کریں۔ یہی طریقہ ہے راست  
رضاجوئی کا۔

۲/۱۳۳  
۱-۴-۳۰

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ لَا نُغْنِي عَنْهُمْ  
خَيْرَ الْبَرِيَّةِ

اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک  
عمل کئے تو یہی لوگ بہترین  
خلایق میں۔

۳/۹۳  
۱-۶-۳۰

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

یہاں کہتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے

## الزلزال

۱/۵۱  
۱-۴-۳۰

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ  
خَيْرًا يَرَهُ

سو جو کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اسے  
دیکھ لے گا۔

۲/۱۵۱  
۱-۸-۳۰

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ  
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

اور جس کسی نے ذرہ بھر بھی بدی کی ہوگی  
اسے بھی دیکھ لے گا۔

## العنكبوت

۲/۲۰۴  
۱-۶-۳۰

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

بیشک انسان اپنے پروردگار کا برا نام لگاتا ہے

۱-۸-۳۰ ۲/۵

وَرَاتَهُ لِحَبِيبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝  
اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے

## القارعة

۱-۶۶-۳۰ ۲۶/۳۴

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝  
پھر جس کسی کا پلر بھاری نکلے گا۔

۱-۸-۳۰ ۲۶/۳۴

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝  
اور جس کسی کا پلر ہلکا نکلے گا۔

۱-۸-۳۰ ۲۹/۱۱

فَأُمُّهُ هَارِيَةٌ ۝  
اس کا ٹھکانہ پاویہ ہوگا۔

## التكاثر

۱-۲-۳۰ ۲۸/۴

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝  
ہاں ہاں تمہیں عنقریب معلوم ہو جاتا ہے

۱-۲-۳۰ ۲۸/۴

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ ۝  
پھر اُس روز تم سے (ہر) نعمت کی پوچھ  
عَنِ التَّعْبِيرِ ۝  
ہوگی۔

## العصر

۱-۲-۳۰ ۱/۱۵۲

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ۝  
کران ان بڑے خسارہ میں ہے۔

۲۸/۶ ۳۰-۳-۱

اور ایک دوسرے کو فہمائش کرتے رہے تو کی

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝

۳۸/۶ ۳۰-۳-۱

اور ایک دوسرے کی فرمائش کرتے رہے پابندی کی

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

## الہمزۃ

۱/۱۳۸ ۳۰-۳-۱

وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال ان کے پاس سدا رہے گا۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ  
أَخْلَدَهُ ۝

## الفیل

۲۱/۱۴ ۳۰-۱-۱

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ  
بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

۲/۱۴ ۳۰-۳-۱

اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پندے بھیجے۔

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا  
أَبَابِيلَ ۝

## قریش

۲/۲۹ ۳۰-۳-۱

کہاں غازیہ کے مالک کی عبادت

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا

الْبَيْتِ ۝

کریں۔

۱-۲-۳۸ ۲/۳۶

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ ۝

جس نے انکو بھوک میں کھانے کو دیا۔

۱-۲-۳۰ ۳/۱۳۱

وَأَمَّنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۝

اور انہیں خوف سے امن دیا۔

## الْمَاعُونَ ۱۴

۱-۲-۳۰ ۱/۳۶

وَذَلِكَ الَّذِي يُدْعَىٰ الْيَتِيمَ ۝

سو وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔

۱-۲-۳۰ ۲/۱۱۰

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ

سو بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کیلئے

هُم عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

جو اپنی نماز بھلا بیٹھے ہیں۔

## الْكَوْثَرُ ۱۸

۱-۱-۳۰ ۲۳/۱۲

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝

ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔

## الْكَافِرُونَ ۱۹

۱-۴-۳۰ ۱/۱۸

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

تہیں تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھے میرا

بدلہ۔



## النَّصْرُ

۱۰۳-۳۰  $\frac{1}{1740-1876}$ 

تو آپ اپنے پروردگار کی توجیہ و مدد کیجئے  
اور اس سے استغفار کیجئے۔

فَسَيَرْجِعْ بِحَدِيثِكَ وَ

اسْتَغْفِرَ لَهُ

## الْهَبُّ

۱-۲-۳۰  $\frac{1}{24/2-23/4}$ 

نہاں کا مال اگلے کام آئے گا اور  
وہ اس کی کمائی۔

مَا أَخَذِي عِنْدَهُ مَالُهُ وَمَا

كَسَبَ هُ

## الْاِخْلَاصُ

۱-۱-۳۰  $\frac{1}{1744}$ 

آپ کو جو بھیجئے کر وہ اللہ ایک ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

۱-۲-۳۰  $\frac{2}{1713}$ 

اللہ بے نیاز اور سب کا مقدر ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ

## الْفَلَقُ

۱-۵-۳۰  $\frac{1}{9/15}$ 

اور سدا کرتے قوائے شر سے پناہ لیتا

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

بولے، جب وہ سدا کرنے لگے اپنی سدا

اظہار کرنے والی وقت نقصان پہنچاتا ہے،

## النَّاس

۱۱۷/۳ - ۱ - ۱

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ °  
 آپ کہتے ہیں انسانوں (بچوں) کے پروردگار۔

۲۶۷/۳ - ۲ - ۱

مَلِكِ النَّاسِ °  
 انسانوں (جو انوں) کے بادشاہ (حکمران) کی۔

۳ - ۲ - ۱

إِلَهِ النَّاسِ °  
 انسانوں (عبادت گزار بڑھوں) کے  
 معبود کی پناہ لیتا ہوں۔

۲۸/۳ - ۳ - ۱

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ °  
 پیچھے ہٹ جانے والے دوسو کے ڈالنے  
 والے (شیطان کے شر سے۔)

۲۸/۳ - ۵ - ۱

الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ  
 النَّاسِ °  
 (وہی) جو لوگوں کے دلوں میں دوسو  
 ڈالتا ہے۔

۶/۹ - ۶ - ۱

مِن الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ °  
 خواہ جنات میں سے ہو یا انسانوں  
 میں سے۔

## تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ  
 أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

۲۹ رمضان المبارک ۱۳۹۴ھ ۱۶ اکتوبر ۱۹۷۴ء یوم پہارِ شنبہ

عاصی حکیم انیس احمد خیر آبادی



# ہماری دیگر مطبوعات

- ۱۔ طبِ نبوی اور جدید سائنس ڈاکٹر خالد غزنی فوکی
  - ۲۔ طبِ نبوی حافظ اکرام الدین واعظ
  - ۳۔ طبِ روحانی مولانا محمد ابراہیم دہلوی
  - ۴۔ مجربات امام غزالی حجة الاسلام امام غزالی
  - ۵۔ فطرتِ صحت حکیم سید غلام رسول شاہ گیلائی
  - ۶۔ رسول اکرم کی جنگی حکیم عبد الباروی
  - ۷۔ جواہر الحدیث شمس پیرزادہ
  - ۸۔ تاریخ اسلام سید امیر علی
  - ۹۔ اسلام کا عائلی نظام سید جلال الدین عمری
  - ۱۰۔ آدابِ زندگی یوسف اصلاحی
  - ۱۱۔ مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات سید جلال الدین عمری
- کا جائزہ : سید جلال الدین عمری

297.16

ن 40 ق



\* 9 6 4 2 6 - U - 6 7 \*

الفیصل



# قرآنی ضرب الامثال

حکیم انیس احمد خیر آبادی